

## باب 4

# کاروباری خدمات

### سیکھنے کے مقاصد

اس باب کے مطالعہ کے بعد آپ:

- خدمات کی خصوصیات بیان کر سکیں گے۔
- خدمات اور اشیاء کے درمیان فرق کر سکیں گے۔
- کاروباری خدمات کی مختلف اقسام کی درجہ بندی کر سکیں گے۔
- ای۔ بینک کاری کے تصور کی وضاحت کر سکیں گے۔
- بیمه پالیسیوں کی مختلف اقسام کی شناخت اور درجہ بندی کر سکیں گے۔
- گوداموں کی مختلف اقسام کی تشریح کر سکیں گے۔

ہم سب ہی نے پیٹرول پپ دیکھے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک پیٹرول پپ کا مالک ایک گاؤں میں اپنا کار بار کسی طرح چلاتا ہے؟ اس کو اتنے اندر ورنی گاؤں میں پیٹرول اور ڈیزل کیسے ملتا ہے؟ اس کے پاس بڑی مقدار میں پیٹرول اور ڈیزل خریدنے کے لیے بیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ پیٹرول ڈپوں کو اپنی پیٹرول کی ضرورت کے بارے میں کس طرح مطلع کرتا ہے؟ وہ کاروبار سے جڑے مختلف خطرات سے اپنی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب کاروباری خدمات کو سمجھنے سے ملتا ہے۔ آئیں ریفاری (یعنی تیل صاف کرنے کے اخراجوں سے پیٹرول پپوں تک پیٹرول اور ڈیزل آئیں اور ٹینکروں کے ذریعے پہنچتا ہے یعنی (ذرائع آمد و رفت کی خدمات سے)۔ پھر یہ ملک کے تمام بڑے شہروں میں واقع آئیں کمپنیوں کے مختلف ڈپوں میں ذخیرہ کیا جاتا ہے (یعنی گودام کاری کی خدمات سے)۔ پیٹرول پپوں کے مالک ڈاک اور ٹیلی فون کی سہولیات کے ذریعے اپنی ضروریات کی دستیابی کے بارے میں گاہکوں، بیکوں اور ڈپوں سے مسلسل رابطہ رکھتے ہیں (مواصلاتی خدمات سے) کیونکہ آئیں کمپنیاں ہمیشہ ہی پیٹرول اور ڈیزل پیشگی ادا یکی کی بنیاد پر فروخت کرتی ہیں اس لیے ماکان کو اپنی خریداری کے لیے بیکوں سے قرض لینا پڑتا ہے (یعنی بینک کاری کی خدمات سے)۔ پیٹرول اور ڈیزل نہایت پُر خطا اشیاء ہیں اس لیے ماکان کو مختلف خطرات سے حفاظت کی خاطر کاروبار اشیاء اور کارکنان وغیرہ کا بیمه کرانا پڑتا ہے (بیمه خدمات سے)۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول پپ پر پیٹرول اور ڈیزل فراہم کرنے کا واحد کاروبار دراصل مختلف کاروباری خدمات کا مجھوں نتیجہ ہے۔ ان خدمات کا استعمال پیٹرول اور ڈیزل کو آئیں ریفاری یوں سے پورے ہندوستان میں پھیلے پیٹرول پپوں پر فروخت کرنے کے لیے پہنچانے میں کیا جاتا ہے۔

#### 4.1 تعارف

یہ ہے کہ اگر ایک طرف کوئی شخص اشیاء کی خریداری کر رہا ہے تو دوسرا جانب کوئی دوسرا خدمت کی خریداری کر رہا ہے۔ لیکن اشیاء اور فراہم کی گئی خدمت کے درمیان فرق ہے۔

ایک عام شخص کے لیے خدمات ایک نظر نہ آنے والی شہ ہیں جن کی خریداری سے کسی طبعی چیز کی ملکیت حاصل نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ ڈاکٹر سے صرف مشورہ لے سکتے ہیں۔ آپ اس کو خریدنہیں سکتے۔ خدمات وہ تمام معاشری سرگرمیاں ہوتی ہیں جو کو نظر نہ آئیں اور صارف اور خدمت فراہم کردہ کے مابین تعلق کے قائم ہونے پر زور دیتی ہیں۔

خدمات وہ علاحدہ طور پر قابل شناخت غیر مرتب سرگرمیاں ہیں

اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ سبھی کو کاروباری سرگرمیوں کے اثر کا تجربہ ضرور ہوا ہوگا۔ یعنی ہم کاروباری سرگرمی کے چند مثالوں کا تجربہ کریں۔ یعنی استھور سے آئس کریم خریدنے اور ریسٹورینٹ میں آئس کریم کھانے، سینما ہال میں فلم دیکھنے اور ویڈیو کیسٹ یا سی ڈی خریدنے، ایک اسکول بس خریدنے اور ایک ٹرانسپورٹ سے کرائے پر اسے حاصل کرنے کے تجربات۔ اگر آپ ان تمام سرگرمیوں کا تجربہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کھانے اور خریدنے، خریدنے اور دیکھنے اور خریدنے اور کرائے پر لینے میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن ان سب ہی میں ایک یکساں بات

ہے۔ مختلف گاہوں کی مانگیں اور توقعات مختلف ہوتی ہیں اس لیے خدمات فراہم کرنے والوں کو گاہوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی خدمات میں کمی بیشی کرنی پڑتی ہے۔ ایسا واقعہ ہو سکتی رہا ہے مثلاً موبائل کی خدمات۔

(iii) ناقابل علیحدگی ہونا: خدمات کی ایک اہم خاصیت پیداوار اور کھپت کا ایک ہی وقت میں واقع ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ خدمات کی پیداوار کو اس کی کھپت سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ آج ایک کار کو بنا کر اس کی فروخت ایک ماہ بعد بھی کی جاسکتی ہے لیکن ایسا خدمات کے ساتھ نہیں ہوتا کہ ان کی پیداوار آج کر کے ان کی کھپت ایک ماہ بعد کرائی جائے۔ خدمات فراہم کردہ مناسب ملنکیں کا استعمال کر کے اس کا مقابل تیار کر سکتی ہیں لیکن پھر بھی گاہک کے ساتھ تعلق خدمات کی ایک کلیدی خاصیت بنا رہتا ہے۔ اے ٹی ایم نقد کی اداگی اور چیک جمع کرنے والے بنگل کلر کی جگہ لے سکتے ہیں لیکن ایسے وقت میں گاہک کی موجودگی بھی ضروری ہے اور اے ٹی ایم کے عمل کے ساتھ ان کے تعلق کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے۔

(iv) ذخیرہ یا مال نامہ، انومنٹی: خدمات میں محسوس کیے جانے والے اجزاء یا توانہیات کم ہوتے ہیں یا بالکل ہی نہیں ہوتے اس لیے ان کو مستقبل کے استعمال کے لیے ذخیرہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خدمات فراہم کار اپنی بہترین کوشش کے باوجود خدمات سے مسلک چند اشیاء کو تو ذخیرہ کر سکتے ہیں لیکن خدمات کو ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ مانگ اور سپلائی کا انتظام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی خدمات اس وقت دی جاتی ہیں جب گاہک ان کا مطالبہ کریں ان کو بعد میں استعمال

جو کہ خواہش کو تسلیم پہنچاتی ہیں اور لازمی طور پر ایک شے یاد گیر خدمت کی فروخت سے مسلک نہیں ہوتی۔

ایک شے کے طبعی مصنوعہ چیز ہے جسے خریدار کو سپرد کیا جاسکتا ہے۔ اور جس کی ملکیت کو بھی فروخت کار سے صارف پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔ سامان کے معنی عام طور پر ہر طرح کی چیز میں استعمال ہوتی ہیں۔ جو تجارت یا کامرس سے وابستہ ہوں۔ لیکن خدمات ان میں شامل نہیں ہیں۔

## 4.2 خدمات کی نوعیت

خدمات کی پانچ بنیادی خصوصیات انہیں اشیاء سے جدا کرتی ہیں ان کا ذکر ذیل میں کیا گیا ہے۔

(i) غیر مرئی یا نظر نہ آنے والی یا پوشیدہ: خدمات غیر مرئی ہوتی ہیں یعنی وہ نظر نہیں آتی اور ان کو چھو انہیں جاسکتا وہ نوعیت کے اعتبار سے قبل تجربہ ہوتی ہیں۔ کوئی ڈاکٹر کے ذریعہ کیے گئے علاج کا ذائقہ نہیں لے سکتا اور نہ ہی لطف کو چھو سکتا ہے۔ ایک کو صرف اس کا تجربہ ہی ہوتا ہے اس کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ اکثر اس کے معیار کا تعین استعمال سے پہلے نہیں کیا جاسکتا یعنی خریداری سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے خدمات فراہم کرنے والوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ خدمات مہیا کرانے کے لیے شعوری طور پر کام کریں جن سے گاہوں کو موافق تجربہ ہو سکے۔ مثلاً ڈاکٹر کے ذریعہ کیا گیا علاج ایک موافق تجربہ ہونا چاہیے۔

(ii) غیر یکسا نیت: خدمات کی دوسری اہم خاصیت ان کا غیر یکسا نیت ہے کیونکہ خدمات کوئی معیاری محسوس کی جانے ولی شے نہیں ہوتیں اس لیے ان کو ہر وقت خاص طور پر ادا کرنا پڑتا

دواہم تفریقی خصوصیات ملکیت کا ناقابل منتقل ہونا اور صارف اور خدمت فراہم کردہ دونوں کی موجودگی ہے۔ اشیاء کو پیدا کیا جاتا ہے جب کہ خدمات تو ادا کیا جاتا ہے۔ خدمت ایک ایسا عمل ہے جس کو گھر نہیں لے جایا جاسکتا ہم گھر پر صرف خدمت کا اثر ہی لے جاتے ہیں۔

### 4.3 خدمات کی اقسام

خدمات کو تین بڑے زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے کاروباری خدمات، سماجی خدمات، اور ذاتی خدمات۔ ان کی وضاحت ذیل میں کی گئی ہے۔

ہونے کے لیے پہلے سے ادنیں کیا جاسکنا مشاہدیوے کے نکٹ کوتوزخیرہ کیا جاسکتا ہے لیکن ریلوے کا سفر اس وقت ہی کیا جائے گا جس وقت ریلوے اسے فراہم کریں۔

(v) شمولیت: خدمات کی ایک اہم خاصیت خدمت کی سپردگی کے عمل میں گاہک کی شمولیت ہے۔ ایک گاہک کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی مخصوص ضروریات کے مطابق خدمات کو تبدیل کرائے۔

### 4.2.1 خدمات اور اشیاء کے درمیان فرق

مندرجہ بالا ذکرہ سے واضح ہے کہ اشیاء اور خدمات کے درمیان

خدمات اور اشیاء کے درمیان فرق

| بنیاد        | خدمات  | اشیاء   |
|--------------|--|---|
| نوعیت        | ایک سرگرمی اعمال مشاہدہ سینما ہال میں فلم دیکھنا   | ایک طبعی شہر مشاہدہ یا کیسٹ فلم کا۔                             |
| قسم          | ایک دوسرے کے بر عکس  | ایک ہی جیسی   |
| غیر محسوس    | غیر محسوس مشاہدہ اکٹر کا علاج کرنا   | محسوس کیا جاسکتا ہے مشاہدہ والی                                 |
| غیر یکسانیت  | غیر مختلف گاہوں کی مختلف نگیں۔ موبائل  | مختلف گاہوں کی معیاری مانگوں کا پورا ہونا مشاہدہ موبائل فون     |
| ناقل علیحدگی | ایک ہی وقت میں پیداوار اور کھیت مشاہدہ ریسٹورینٹ میں آنس کریم کھانا خریدنا                                   | پیداوار اور کھیت میں علیحدگی مشاہدہ ایک دکان سے آنس کریم خریدنا |
| انوینٹری     | اٹاک میں نہیں رکھا جاسکتا مشاہدہ ریل کے ذریعہ سفر  | اٹاک میں رکھا جاسکتا ہے مشاہدہ ریل سفر کا نکٹ                   |
| شمولیت       | خدمت کی سپردگی کے وقت گاہوں کی شمولیت مشاہدہ فوراً فروخت کرنے والی دکان میں گاہوں کے ذریعہ اپنی خدمت آپ کرنا | سپردگی کے وقت شمولیت ممکن نہیں مشاہدہ ایک موڑ گاڑی بنانا۔       |

## گلیس کا تعارف

یوروجوئے راؤنڈ میں تجارتی خدمات پر ہونے والا معاهدہ شایدی ملٹی لیشن تجارتی نظام میں ترقی کی جانب ایک اہم اشارہ ہے نئی تجارتی خدمات پر عام معاهدے (گلیس) نے پہلی مرتبہ بین الاقوامی قوانین اور وعدے تنکیل کیے ہیں جن کا موازنہ گیرٹ (GATT) تجارت کے قوانین سے کیا جاسکتا ہے۔ گلیس کا ایک اہم عضروعدہ کرنے میں استعمال کی جانے والی خدمات کی زمرہ بندی ہے۔ گلیس شیدول کے تحت جس زمرہ بندی کو پاتایا جاتا ہے اس میں 11 بنیادی خدماتی سیکڑوں کی نشاندہی کی گئی ہے (بارھویں زمرہ میں متفرقہ خدمات آتی ہیں) ان سیکڑوں کو مزید 160 ذیلی سیکڑوں یا علیحدہ خدماتی سرگرمیوں میں تقسیم کیا گیا ہے مثلاً کے طور پر ٹورازم درجہ کو ہوٹل اور ریஸورسیوں کے ذیلی سیکڑوں میں بانٹا گیا ہے یہ بارہ سیکڑ ہیں:

- .1. کاروباری خدمات (اس میں پیشہ وارانہ اور کمپیوٹر خدمات شامل رہیں)
- .2. موصلاتی خدمات
- .3. تعمیرات اور متعلقہ انجینئرنگ خدمات
- .4. تعلیمی خدمات
- .5. تعلیمی خدمات
- .6. ماخولیاتی خدمات
- .7. مالیاتی خدمات (بیمه اور پینک کاری)
- .8. صحت اور متعلقہ سماجی خدمات
- .9. ثقافتی اور کھیل کوڈی خدمات
- .10. ٹرانسپورٹ خدمات
- .11. ٹورازم اور سفر سے متعلق خدمات
- .12. دیگر خدمات جو کہ ان میں کہیں شامل نہیں ہیں

- (i) کاروباری خدمات: کاروباری خدمات وہ خدمات ہوتی ہیں۔ یہ سماجی مقاصد معاشرہ کے کمزور طبقوں کے معیار زندگی میں بہتری لانا، ان کے بچوں کو تعلیمی خدمات فراہم کرنا یا گندی بستیوں میں صحت و صفائی کی سہولتیں فراہم کرنا ہو سکتے ہیں یہ خدمات عام طور پر رضا کارانہ طور پر فراہم کی جاتی ہیں لیکن بعض حالات میں کچھ معاوضہ ان کی لاگتوں کو پورا کرنے کے لیے یا مقاصد حاصل کرنے کے لیے رضا کارانہ طور پر انجام دی جاتی جا سکتا ہے مثلاً سرکاری ایجنسیوں اور چند غیر سرکاری تنظیموں کی

### ایک معیشت میں خدمات کا رو

- اویسی ڈی ممالک (Organisation for Economic Cooperation for development) کی معیشت کا 60 سے 65 فیصد خدماتی سیکٹر پر مشتمل ہے جس میں تو انی، ٹیکنالوگی کام اور ٹرانسپورٹ شامل ہیں یہ تجسس کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ترقی پدری ممالک کے جی ڈی پی کا قابل قدر حصہ بھی خدماتی سیکٹر سے حاصل ہوتا ہے۔
- معاشی ترقی اور غربت کے خاتمہ کے لیے اعلیٰ، یکساں اور ہمہ گیر غرضوں کے اور ایسی نشوونما کے لیے معیشت میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ موجودہ سالوں میں سرمایہ کاری اور نشوونما دونوں میں ہی حوصلہ افزاتری ہوئی ہے۔ آبادی اور قوت خرید میں برابری کے لحاظ سے ہندوستان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے اس کا شمار دنیا کی 15 اعلیٰ معیشتوں میں ہوتا ہے اور موقع ہے یہ 2005 تک دنیا کی تیسرا سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔
- کسی ترقی کی جانب رواں معیشت کی طرح ہی جی ڈی پی کی تابعی تشكیل میں تبدیلی آرہی ہے۔ خدمات کے حصہ میں 50 فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اور زراعت میں 25 فیصد تک گراوٹ ہوئی ہے۔ 2003-04 کے دوران خدماتی سیکٹر توسعہ کا ایک اہم حصہ رہا ہے اور اس نے جی ڈی پی کے اضافے میں 57.6 فیصد حصہ دیا ہے۔ اس میں سب سے نمایاں روں تجارت، ہمبوگنی، ٹرانسپورٹ اور مواد صادرات کا تھا۔ اس کی ایک وجہ اشیاء کی پیداوار کرنے والے سیکٹروں کی بہتر کارکردگی بھی رہی تھی۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر کی کارکردگی میں اضافہ ریلوے میں مسافروں اور مال کی آمد و رفت اور اہم بندرگاہوں پر مال کو سنبھالنے والی خدمات میں وسعت کی وجہ سے بھی ہوا تھا۔
- جدید اعداد و شمار کے مطابق، دنیا کی معیشت کا تقریباً 63 فیصد حصہ خدمات پر مشتمل ہے۔ جب کہ صنعت کا 32 فیصد زراعت کا حصہ محض 5 فیصد ہے ترقی یافتہ ممالک میں تقریباً 70 فیصد کام کرنے والے لوگ خدماتی سیکٹر سے وابستہ ہیں۔

جانب سے فراہم کی جانے والی صحت اور تعلیم کی خدمات۔ کو پہلے درجہ کے خدماتی سیکٹر یعنی کاروباری خدمات تک ہی محدود

(iii) ذاتی خدمات: ذاتی خدمات وہ خدمات ہوتی ہیں جن کا تجربہ مختلف گاہوں کو مختلف طور پر ہوتا ہے نو عیت کے اعتبار سے

ان خدمات میں کیسانیت پائی جاتی ہے۔ ان کے مختلف ہونے کا انحصار خدمت فراہم کرنے والے پر ہوتا ہے یہ گاہوں کی

آج کی دنیا مقابلہ کی دنیا ہے جہاں سب سے زیادہ مضبوط اور مانگوں اور ترجیحات پر بھی مختص ہوتی ہیں مثلاً ٹورازم، ثقافتی خدمات اور لیٹھوٹیس۔ کاروباری دنیا کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم اپنی مزید گفتگو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ ایک دوسرے سے بہتر مقابلہ

#### 4.4 بینک کاری

کمر شکل بینک معیشت کا اہم ادارہ ہیں جو اپنے گاہوں کو ادارتی قرض مہیا کرتے ہیں ہندوستان میں ایک بینک کاری کمپنی وہ کمپنی ہے جو کہ بینک کاری کے کاروباری سودے کرتی ہے یعنی عوام سے رقم وصول کرتی ہے تاکہ اس کو ادھار دے سکے یا اس کی سرمایہ کاری کر سکے۔ یہ رقم مانگے جانے پر مقابلہ پوچھی ہوتی ہے یا اس کوچیک ڈرافٹ یا آڈر کے ذریعہ یا کسی دوسرے طریقے سے بینک سے نکلا جاسکتا ہے۔ سادہ الفاظ میں بینک کا ادارہ اسے کہتے ہیں جو جمع کی شکل میں طلب پوچھی کے لیے رقم وصول کرتا ہے اور اس رقم کو قرض دے کر منافع کا کچھ حصہ کماتا ہے ایک بینک رقم کا سودا کر کے بازار میں معاشی سرگرمی میں زور پیدا کرتا ہے۔ یہ لوگوں کی بچتوں کو حركت پذیر بناتا ہے اور کار باری اداروں کے مالیاتی اور دوسرے سرمایہ کے اخراجات کے لیے فنڈ مہیا کرتا ہے یہ مالیاتی دستاویزات کا کاروبار بھی کرتا ہے اور ایک قیمت کے عوض میں جسے سود، چھوٹ، کمیشن وغیرہ کہتے ہیں مالیاتی خدمات بھی فراہم کرتا ہے۔

کرنے کے لیے کاروباری ادارے ماہر انہ کاروباری خدمات پر زیادہ سے زیادہ منحصر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کاروباری ادارے فنڈس کی دستیابی کے لیے بنکوں کی جانب رخ کرتے ہیں، اپنی اشیاء مشینی، پلانٹ وغیرہ کا بیمه کرنے کے لیے بیمه کمپنیوں، تیار مال اور خام مال کو لانے کے لیے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کمپنیوں اور اپنے خریداروں، سپلائروں اور گاہوں سے رابطہ قائم رکھنے کے لئے ٹیلی کام اور ڈاک کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ آج دنیا کی عالم کاری ہندوستان میں خدمات صنعت کے میدان میں زبردست تبدیلی لے آئی ہے۔ اب ہندوستان دنیا کی ترقی یافتہ میഷنزوں کو خدمات فراہم کر رہا ہے اور اس میدان میں دوسرے ملکوں کے ساتھ مقابلہ میں اس نے سبقت حاصل کر لی ہے۔ کاروباری خدمات حاصل کرنے کے لیے کئی غیر ملکی کمپنیاں ہندوستان کا رخ کر رہی ہیں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کاروباری کام کا ج کا کچھ حصہ ہندوستان میں کرنے کی غرض سے اسے یہاں منتقل بھی کر رہی ہیں۔ ہم اگلے باب میں اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔

#### بینک کاری اور سماجی مقاصد

سماجی مقاصد کے حصول کے لئے حال ہی میں بینک کاری کو جدید ترین بنانے کے لیے پالیسیاں بنانے والوں نے بہت کوششیں کیں ہیں۔ ملک میں بینک کاری پالیسی میں خاصی تبدیلی:

| تک              | سے                  |
|-----------------|---------------------|
| دیہی بینک کاری  | (i) شہری بینک کاری  |
| عوامی بینک کاری | (ii) درجہ بینک کاری |
| تجییقی عمل      | (iii) روایتی        |
| ترقی کے مقاصد   | (iv) جزوی مقاصد     |

(iii) امداد بآہی بینک: امداد بآہی بینکوں پر ریاستی امداد بآہی سوسائٹیوں کی دفعات لاگو ہوتی ہیں ان کا مقصد اپنے نمبران کو ارزائ قرض فراہم کرنا ہوتا ہے۔ یہ دیہاتی ادھار یعنی ہندوستان میں زراعت کی مالی مدد کا اہم ذریعہ ہے۔

(iv) مخصوص بینک: یہ بینک ان بینکوں میں غیر ملکی زر مبادلہ کے بینک، صنعتی بینک، ترقیاتی بینک، درآمدی، برآمدی بینک شامل ہیں جو ان خاص اور لیکن کاموں کو انجام دینے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قائم کیئے گئے ہیں یہ بینک غیر ملکی تجارت، بڑے پراجیکٹوں اور صنعتوں کو مالی مدد فراہم کرتے ہیں۔

(v) مرکزی بینک: کسی ملک کا مرکزی بینک اس ملک کے تمام کمرشل بینکوں کی سرگرمیوں کی نگرانی اور کنشروں کرتا ہے یہ حکومت کے بینک کا رکا کام بھی انجام دیتا ہے کسی ملک کی قرض سے متعلق پالیسیوں اور کرنی کو کنشروں کرتا ہے اور ان میں ربط پیدا کرتا ہے۔

#### 4.4.2 کمرشل بینکوں کے کام

بینک بہت سے کام کرتے ہیں جو بینکوں کی قسموں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں ان میں کچھ ابتدائی یا بنیادی کام کاچ ہیں دوسرے کاموں میں ایجنٹی کے کام ہیں جن کی نوعیت عام افادی خدمات کی ہوتی ہے ان کاموں پر اختصار کے ساتھ ذیل میں بحث کی جاتی ہے۔

(1) ڈپاٹ جمع کرنا: ڈپاٹ قرضہ دینے کے عمل کی بنیاد ہیں کیونکہ بینک رقم ادھار لینے والے بھی ہیں اور ادھار دینے بھی۔ ادھار لینے والوں کی حیثیت سے سودا کرتے ہیں اور ادھار

#### 4.4.1 بینکوں کی اقسام

بینک کاری کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے ضروریات جدا ہوتی ہیں اور کام کرنے کے طریقہ میں فرق پایا جاتا ہے اسی لیے مندرجہ بالا پچیدگیوں کے پیش نظر ہم کو متفرق اقسام کے بینکوں کی ضرورت ہوتی ہے بینکوں کی زمرہ بندی مندرجہ ذیل طرح سے کی جاسکتی ہے۔

1. کمرشل بینک
2. امداد بآہی بینک
3. مخصوص بینک
4. مرکزی بینک

(i) کمرشل بینک: کمرشل بینک وہ ادارے ہیں جو رقم کا کاروبار کرتے ہیں ان بینکوں پر ہندوستانی بینک کاری منضبٹ کرنے کا قانون 1949 لاگو ہوتا ہے اور اس کے مطابق بینک کاری سے مراد قرض دینے یا سرمایہ کاری کے مقصد سے جمع کرنے کے لیے لوگوں سے رقم کی شکل میں پیہے وصول کرنا ہے کمرشل بینک دو طرح کے ہوتے ہیں یعنی سیکٹر کے بینک اور نجی سیکٹر کے بینک یعنی سیکٹر کے بینک وہ بینک ہوتے ہیں جن میں زیادہ سرمایہ حکومت کا لگا ہوتا ہے سرکاری ملکیت کے سبب یہ بینک منافع پر توجہ نہ کر کے سماجی مقاصد پر زور دیتے ہیں۔ نجی سیکٹر بینکوں کی ملکیت، انتظام اور کنشروں نجی سرپرستوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بازار کے حالات کے پیش نظر اپنی پالیسیاں بنانے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ قومیائے گئے عوامی سیکٹر بینکوں کی تعداد 20 ہے جیسے اسٹیٹ بینک آف انڈیا، پنجاب نیشنل بینک، آئی او بی وغیرہ۔ نجی سیکٹر بینکوں کی مثالیں ہیں ایف ڈی سی بینک، آئی سی آئی بینک، کوٹک مہندر ایمنک، اور جموں و کشمیر بینک۔

یافہ دستاویز، خصوصیت اور کام ہے جس کے ذریعہ جمع شدہ رقم کو نکالا جاتا ہے۔ یہ نہایت آسان اور لین دین کا سہہ ذریعہ ہے چیک و طرح کے ہوتے ہیں۔ (a) بیس رچیک، جنہیں بینک کے کاؤنٹر پر فوراً ہی کیش میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ (b) کراسڈ چیک، جن کو صرف اس شخص کے کھاتے میں ہی جمع کرایا جاسکتا ہے جس کو رقم کی ادائیگی کی جانی ہے۔

(iv) رقم بھیجتے کی آسانیاں: ایک جگہ سے دوسرا جگہ فنڈ کے تبادلے بینک رقم پے آرڈر یا میل ٹرانسفر کے ذریعہ کرتا ہے، جس پر واجب کمیشن لی جاتی ہے بینک رقم کا ایک ڈرافٹ دوسرا جگہوں پر اپنی شاخوں پر یا ان جگہوں پر دوسرے بینکوں کے نام چاری کرتا ہے رقم پانے والا اپنے مقام پر رقم دینے والے بینک کو یڈرافٹ پیش کرتا ہے۔ اور رقم وصول کر لیتا ہے۔

(v) حلیف خدمات: مندرجہ بالا کاموں کے علاوہ بینک حلیف خدمات بھی فراہم کرتے ہیں جیسے بلوں کی ادائیگیاں، لاکروں کی سہولیات، انڈر رائیٹنگ کی خدمات۔ یہ دیگر خدمات بھی انجام دیتے ہیں جیسے ہدایات پر حصص اور ڈپچئرز کی خرید و فروخت اور دیگر نجی خدمات جیسے ڈیویڈنڈ کی وصولیابی، یہ پر یکیم کی ادائیگی وغیرہ۔

#### 4.4.3 ای-بینک کاری

انٹرنیٹ اور ای کامرس کی ترقی نے روزمرہ کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے عالمی ویب (ورلڈ وائیڈ ویب) اور ای کامرس کی بدولت پوری دنیا ایک عالمی گاؤں میں بدلی جا رہی ہے۔ انفارمیشن ٹکنالوجی کی ایک جدید ریاضت انٹرنیٹ بینک کاری ہے یہ عملی اور

دینے والوں کی حیثیت سے وہ ادھار دی گئی رقم پر سود وصول کرتے ہیں۔ یہ ڈپازٹ عموماً رواں کھاتے، بچت کھاتے اور قائم ڈپازٹ کی شکل میں لیئے جاتے ہیں۔ رواں کھاتے (Current Account) سے رقم کسی بھی وقت کسی جمع شدہ رقم کی حد تک بغیر پہلے سے نوٹس دیے نکالی جاسکتی ہے۔

بچت کھاتے لوگوں کو بچت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان ڈپازٹوں پر بینکوں نے ذریعہ دیے جانے والے سود کی شرح کو ریزو بینک آف انڈیا طے کرتا ہے۔ ان کھاتوں سے رقم نکالنے پر چند پابندیاں ہوتی ہیں ان پابندیوں کا تعلق نکالی جانے والی رقم سے بھی ہوتا ہے اور ایک مقررہ مدت میں لکنٹی مرتبہ رقم نکالنی ہے اس سے بھی قائم کھاتے (Fixed deposits) مدتی ڈپازٹ ہوتے ہیں۔ اور بچت کھاتوں کی پہبندی ان پر سود کی شرح زیادہ ہوتی ہے مدت پوری ہونے سے قبل بھی رقم نکالنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن اس صورت میں سود کی کچھ فیصلہ غلط کر لی جاتی ہے۔

(ii) رقم ادھار دینا: کرشل بینکوں کا دوسرا اہم کام ڈپازٹوں کے ذریعہ جمع شدہ رقم سے قرضہ اور پیشگی فراہم کرتا ہے۔ یہ پیشگیاں، اور ڈرافٹ، کیش کریٹ، بلوں کو بھانا، مدتی قرض، صارفین کو قرض، اور دیگر متفرقہ پیشگیوں کی شکل میں ہو سکتی ہیں۔ بینکوں کے ذریعہ قرضہ جات دینے سے تجارت، صنعت، نقل و حمل اور دوسرا کاروباری سرگرمیوں کی ترقی میں بڑی مدد ملتی ہے۔

(iii) چیک کی سہولت: دوسرے بینکوں سے حاصل کیے گئے چکوں کی رقم وصول کر کے بینک اپنے گاہکوں کے لیے بہت ہی اہم خدمت انجام دیتے ہیں۔ چیک بینکوں کا قرض کا اہم اور ترقی

کھاتوں کی جانچ، قرضہ کی گزارش، یا بلوں کی ادائیگی۔ ای۔ بینک کاری کے ذریعہ پیش کی جانے والی خدمات ہیں: الیکٹرائیک فنڈ ٹرانسفر (ای ایف ای) یا برقی طور پر رقم کی منتقلی، آٹومیک ٹیلر میشن (ATM) اور پاؤخت آف سیس (پی او ایس)، الیکٹرائیک ڈائٹ ایٹر چارج (ای ڈی آئی) کریٹ کارڈ ڈیمیکھیل کیش۔

### فوائد

ای۔ بینک کاری کے ذریعہ گاہوں کوئی طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں جو ہیں:

- (i) ای۔ بینک کاری سال کے 365 دن چوبیں گھنٹے گاہوں کو بینک کی خدمت فراہم کرتی ہے۔
- (ii) گاہک چند منظور شدہ لین دین موبائل فون کے ذریعہ اپنے دفتر، گھر یا دروازے سفر بھی کر سکتے ہیں۔
- (iii) یہ ہر ایک سودے کا اندر اراج کر کے مالیاتی نظم و ضبط کا احساس پیدا کرتی ہے۔

(iv) اس طرح کی بینک کاری بینک کی شاخوں تک ہی محدود نہیں ہوتی بلکہ یہ گاہوں کو لا محدود پہنچ فراہم کرتی ہے جس سے ان کے اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے۔ گاہوں کو نقدر رقم کے ساتھ سفر بھی نہیں کرنا پڑتا اور اس طرح زیادہ تحفظ حاصل ہوتا ہے اور خطرات میں کمی آتی ہے۔ بینکوں کو بھی ای۔ بینک کاری سے فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ فوائد ہیں:

- (i) ای۔ بینک کاری بینکوں کو دوسرے بینکوں کے ساتھ مسابقت یا مقابلے میں برتری سے نوازتی ہے۔

حقیقی بینک کاری کا ایک حصہ ہے اور گاہوں کے لیے رقم کے لین دین کا ایک اور ذریعہ ہے۔

سادہ الفاظ میں اٹرنیٹ بینک کاری کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس نجی کمپیوٹر اور ایک برا سوور ہو وہ بینکوں کی ویب سائیٹ سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ اور عملی بینک کاری / ورچویل بینک کاری کا کوئی بھی کام انجام دے سکتا ہے۔ اور بینک کی کسی بھی خدمت کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے اس عمل میں گاہک کی ضروریات کا جواب دینے کے لئے کوئی بھی انسانی کارکن بینک کی جانب سے موجود نہیں ہوتا۔ بینک کا ایک مرکزی ڈاتا بیس (اعدادو شماری بنیاد) ہوتا ہے جس کو ویب پر دکھایا جاسکتا ہے وہ تمام خدمات جن کی بینک اجازت دیتا ہے وہ اٹرنیٹ پر ایک مینوں میں دکھائی جاتی ہیں کسی بھی خدمت کا انتخاب کیا جاسکتا ہے مزید رابطہ بڑھانے کی خدمت کی نوعیت کے مطابق ہدایت دی جاتی ہے۔

نئے ڈیمیکھیل بازار میں بینکوں اور مالیاتی اداروں نے اٹرنیٹ پر خدمات فراہم کرنا شروع کر دیا ہے اٹرنیٹ پر بینکوں کے ذریعہ فراہم کی جانے والی خدمات کی قسم ای بینک کاری، کہلاتی ہے جس کی بدولت بینک کاری سودے کی لაگت میں کمی واقع ہوئی ہے، گاہوں کو تقویت حاصل ہوئی ہے اور بینک کاری رشتہ کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ ای۔ بینک کاری الکٹریک میڈیا کا استعمال کر کے الیکٹرائیک بینک کاری کرنا ہے۔ اس طرح ای بینک کاری کئی بینکوں کے ذریعہ فراہم کی جانے والی خدمت ہے جس کی بدولت گاہک اپنے نجی کمپیوٹر اور موبائل فون کا استعمال کر کے اٹرنیٹ پر بینک کاری لین دین کر سکتے ہیں جیسے بچتوں کا انتظام،

### 4.5 بیہم

زندگی غیر یقینی حالات سے بھری ہوئی ہے کسی بھی نقصان دہ واقع کاروںما ہونا نہایت غیر یقینی ہے۔ انسانی زندگی کو معذوری اور موت کے خطرات رہتے ہیں، اٹاٹھ جات کو آگ اور چوری کے خطرات ہیں، مال کو سمندری جہاز سے بھیجنے میں سمندری آفات سے خطرات ہیں وغیرہ۔ اگر ان میں سے کوئی بھی خطرہ حقیقی طور پر واقع ہو جائے تو ایسی صورت میں افراد یا اداروں کو کافی نقصان

(ii) ای۔ بینک کاری بینک کو لامحمد و دنیب و رک فراہم کرتی ہے اور بینک اپنی شاخوں کی تعداد تک محدود نہیں رہتا۔ کوئی بھی بخی کمپیوٹر جو کسی ایسے ماڈیم اور ٹیلی فون سے جڑا ہوا ہو جس کا ااباطہ اٹھنی ہے ہو گا ہک کی رقم بینک سے نکالنے کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔

(iii) اس کے ذریعہ بینک کی شاخوں پر کام کے بوجھ میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ کمی مرکزی ڈائٹا میں کو قائم کر کے اور چند لمحاتا داری کام اس کو سونپ کر کی جاسکتی ہے۔

### ہندوستانی بیہمہ شعبہ

ہندوستان دنیا کی تیزی سے فروع پارہی میں میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ تینوں سیکٹروں یعنی زراعت، صنعت اور خدمات کی بہتر کارگزاری ہے صفت کاری اور خدماتی شعبہ کی سرگرمیوں میں اضافہ کی وجہ سے زیادہ تناسب میں بیہمہ سیکٹر میں داخلہ کے وقت کی ضرورت ہے۔

ہندوستان میں مالیاتی سیکٹر میں تبدیلی کی ابتداء ہونے کے ساتھ ہندوستانی بیہمہ سیکٹر جو کراب تک حکومت کے کنٹرول میں تھا اب اس کو عالمی مقابلہ کے لیے کھوں دیا گیا ہے۔ پہلا قدم جو سرکار نے اٹھایا وہ آئی آرڈی اے قانون کا قیام تھا جس کا مقصد ترقی کے عمل کو تیز کرنا تھا۔ ہندوستانی بیہمہ بازار بہت زیادہ الہیت رکھنے والا عظیم بازار ہے دسمبر 1999 میں بیہمہ سیکٹر کے کھلنے سے بیہمہ صنعت تبدیل ہو رہی ہے آج 13 کمپنیاں زندگی اور 13 کمپنیاں غیر زندگی بیہمہ حصوں میں کام کر رہی ہیں ایں آئی سی آف انڈیا لذت شتہ چار دہائیوں سے زندگی حصہ میں غالب رہی ہے حالانکہ قابل بیہمہ آبادی کا صرف 25 فیصد رہی بیہمہ شدہ تھا۔

سال 2000 سے آئی آرڈی اے نے بخی کاروباری اداروں کو بھی لائسنس دینا شروع کر دیا ہے اس طرح گذشتہ چند سالوں میں عام بیہمہ سیکٹر نے کافی وسعت حاصل کر لی ہے۔ پر بیہمہ آمد نی میں 20% کی شرح سے اضافہ ہوا ہے۔ شعبہ جاتی تقسیم سے پتا چلتا ہے کہ سال 2002-03 میں کاروبار کا 21% آگ، 9% سمندری بیہمہ، 8% موٹر بیہمہ، 5% فرم کی صحت اسکیمیوں، 39% موڑ بیہمہ اور 18% انجینئرنگ اور بقیہ 18% دیگر متفرقہ بیہمیوں سے حاصل ہوا ہے۔ تیزی سے فروع پارہی کمپنیوں میں نیشنل انشوپیں، بیجان ایلینیا اور آئی سی آئی لومبارڈ ہیں۔ موجودہ دور میں تحریر شدہ کاروبار (آگ، سمندری، موڑ اور انجینئرنگ) کے 70% پر ٹیکس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے یعنی یہ پس کنٹرول کے اندر آتے ہیں۔

### 4.5.1 بیمه کا بنیادی اصول

بیمه کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بیمه شدہ فردیا کاروباری ادارہ مستقبل کی بڑی رقم کے غیر یقینی نقصان کی جگہ ایک پختہ طور پر معلوم رقم خرچ کرنا پسند کرتا ہے اس طرح بیمه کا نچوڑ یہ ہے کہ بڑے ممکنہ نقصان کو وقتاً فوقتاً معمولی ادا بیگنی یعنی پریمیم سے تبدیل کر دیا جائے۔ نقصان کا امکان تو اب بھی باقی رہتا ہے لیکن جب نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کو اسی خطرہ سے دوچار بڑی تعداد میں پالیسی کے حاملین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ وہ جو پریمیم دیتے ہیں اسے اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور جب کسی حامل پالیسی کا نقصان ہوتا ہے تو اس رقم میں سے اس کی تلافی کر دی جاتی ہے۔ اس طرح درحقیقت خطرات میں دوسروں کو شریک کر لیا جاتا ہے۔ سابقہ حالات کے تجزیے سے بیمه کنندہ (بیہ کمپنی یا انڈر رائٹر) بیمه میں شامل ہر قسم کے خطرہ سے ممکنہ نقصانات کا اندازہ لگایتا ہے۔ اس طرح بیمه جو کھم یا خطرہ کا انتظام کرنے کی ایک شکل ہے جس کا استعمال بنیادی طور پر مالی نقصان کے خطرہ سے حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے اس طرح بیمه سے مراد ایک واجب معاوضہ کے بدلتے میں ایک شخص سے دوسرے شخص پر ممکنہ خطرے کو منتقل کرنا ہے بیہ کمپنی اس طرح ایک ایسی انجمن یا کارپوریشن یا ادارہ ہے جو ایک معاوضہ (پریمیم) کے بدلتے میں تمام برحق مطالبات کی ادا بیگنی کرنے کا کاروبار کرتا ہے۔

بیہ کا ایسا سماجی طریقہ ہے جس میں افراد کا ایک گروپ (بیہ شدہ) دوسرے فریق پر اپنے جو کھم کو منتقل کر دیتا ہے یہ فریق تمام ممبروں سے وصول شدہ رقم (پریمیم) میں سے نقصان کی

اٹھانا پڑتا ہے جس کا اٹھانا بعض اوقات ان کی استعداد سے باہر ہوتا ہے بیہ وجہ ہے کہ ایسے غیر یقینی حالات کے اثر کو کم سے کم کرنے کے لیے بیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمارتیں یا بھاری مشینی یا دیگر اثاثہ جات میں سرمایہ کاری کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ان کو لاحق خطرات سے بچنے کا معقول انتظام نہ کر لیا جائے یعنی ان کا بیہ نہ کرایا جائے۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسے لوگ جن کو مشترک خطرات کا سامنا ہوتا ہے آپس میں مل جاتے ہیں اور ایک مشترک فنڈ میں تھوڑی تھوڑی رقم جمع کرتے ہیں جس کی بدولت کسی خاص خطرہ سے کسی ایک شخص کو پہنچ نقصان کو ان کی بڑی تعداد میں موجود افراد پر پھیلا دیا جاتا ہے جن کو یہ خطرہ لاحق ہے۔

بیہ اس طرح ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے کسی غیر یقینی واقع سے ہونے والے نقصان کو ان تمام لوگوں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے جن کو اس غیر یقینی واقع کا اندازہ ہو اور جو اس واقع سے بچنے کے لیے اپنا بیہ کرانے کے لیے تیار ہوں۔ بیہ ایک معاهدہ یا اقران نامہ کی شکل ہے جس کے تحت ایک فریق معاوضہ میں ط شدہ رقم دوسرے فریق کو دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ تاکہ کسی قسم کی چیز کو جس میں بیہ شدہ شخص کا مالی فائدہ ہے اس کو کسی غیر یقینی واقع سے ہونے والے نقصان، ہر جانہ یا چوٹ کی تلافی کریگا۔ یہ معاهدہ راقر انعامہ تحریری ہوتا ہے اور اسے پالیسی کہا جاتا ہے۔ وہ شخص جس کا جو کھم یا خطرے سے تحفظ کیا جاتا ہے اس کو بیہ کرانے والا یا بیہ شدہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ شخص یا فرم جو کسی جو کھم یا خطرے سے دوسرے فریق کا تحفظ کرتا ہے اس کو بیہ کاریا بیہ کنندہ کہتے ہیں۔

(iv) سرمایہ کی تکمیل میں معاون: بیمه کرنے والوں کے ذریعہ جمع شدہ فنڈ جو کہ وہ بیمه شدہ افراد سے پریم کی صورت میں وصول کرتے ہیں اس کی سرمایہ کاری ایسی ایکیموں میں کی جاتی ہے جن سے معیشت میں آمدی پیدا ہو سکے۔

### 4.5.3 بیمه کے اصول

بیمه کے اصول سے مراد بیمه کے کاروبار میں مفاد رکھنے والے لوگوں کے اصول عمل اور کردار سے ہوا ہے۔ مخصوص اصول جو کہ ایک اصل بیمه کے معاملے میں نہایت اہمیت رکھتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں:

(i) انتہائی نیک نیتی: بیمه کا معہدہ fidei Uberrimae کا معہدہ ہے اس کے معنی ہیں کہ اس معاملے کی بنیاد انتہائی نیک نیتی پر ہے۔ یہ ہر بیمه کے معاملے کی شرط ہے کہ بیمه کنندہ اور بیمه شدہ دونوں فریقین کو انتہائی نیک نیتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بیمه شدہ کا فرض ہے کہ وہ تجویز شدہ جو حکم سے تمام حقوق کو رضا کار ان طور پر کھل طور سے بتائے اور بیمه کنندہ کا فرض ہے کہ وہ بیمه کے معاملے سے متعلق تمام شراط کو پوری طرح واضح کر دے اس طرح تجویز کنندہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

ادائیگی کرتا ہے۔ بیمه کا مطلب ہے ایسے غیر قیمتی واقعات سے بیمه شدہ کی حفاظت کرنا جس سے اسے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو۔

### 4.5.2 بیمه کے کام

بیمه کے مختلف کام مندرجہ ذیل ہیں:

(i) یقینی بنانا: بیمه نقصان کے خطرے کی ادائیگی کو یقینی بناتا ہے نقصان کے رومنا ہونے کے وقت اور اس کی رقم کو لے کر غیر یقینی بنی رہتی ہے بیمه اس غیر یقینی کا خاتمه کرتا ہے اور نقصان کی رقم کی ادائیگی کو یقینی بناتا ہے۔ بیمه کرنے والا اس یقینی صورت حال کو فراہم کرنے کے لیے پریم وصول کرتا ہے۔

(ii) تحفظ: بیمه کا دوسرا اہم کام ممکنہ نقصان کے امکانات سے تحفظ فراہم کرنا ہے بیمه کسی واقع یا خطرے کے واقع ہونے کو تو نہیں روک سکتا لیکن اس کے نتیجہ میں ہونے والے نقصانات کی ملاطفی کر سکتا ہے۔

(iii) خطرے میں حصہ داری: کسی واقع کے رومنا ہونے پر نقصان میں وہ تمام اشخاص حصہ لیتے ہیں جنہیں اس واقع کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہر بیمه شدہ ممبر سے اس کا حصہ بطور پریم وصول کیا جاتا ہے۔

### ظاہر کیے جانے والے حقائق کی مثالیں

آگ کا بیمه: عمارت کی تعمیر، آگ کو پتہ لگانا، آگ بجھانے کا ساز و سامان اور آگ کے استعمال کی نوعیت۔

موٹر بیمه:

گاڑی کی قسم؛ ڈرائیور کی تفصیل۔

ذاتی حادثہ کا بیمه: عمر، لمبائی، وزن، پیشہ، گزشته طبی یعنی بیماریوں کی تاریخ اور تفصیلات

زندگی کا بیمه: عمر، گزشته طبی تاریخ، ہشرا ب نوشی یا سکریٹ نوشی کی عادتیں۔

بیمه شدہ کو بیمه شدہ جائیداد کے بر بادیا خراب ہونے کے نقصان کی تلافی کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے۔ تلافی کی رقم جوادا کی جانی ہے اور جو نقصان ہوا ہے یہ دونوں ایسی ہوں کہ روپے پیسے میں ان کی پیاش کی جاسکے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نقصان کی تلافی کا اصول ذاتی بیمه میں مثلاً زندگی بیمه Life Insurance پر لا گنہیں ہوتا ہے۔

(iv) قریب ترین سبب: اس اصول کے مطابق بیمه پالیسی اس طرح بنائی جاتی ہے کہ صرف ایسے ہی نقصانات کی تلافی کی جائے جو کہ پالیسی میں بیان کردہ خطرات کی وجہ سے واقع ہوئے ہوں۔ اگر نقصان دو یادو سے زیادہ وجوہات کے نتیجہ میں واقع ہوا ہے تو اس صورت میں سب سے زیادہ غالب یا موثر سبب کو نقصان کی قدرتی وجہ مانا جائے گا۔ کسی حادثے سے نقصان ہونے کی صورت میں حادثے کے قریب ترین سبب کو ہن میں رکھنا چاہیے۔


(v) حق ملکیت بدلتا: اس سے مراد بیمه کنندہ کے مطالبات کو پورا کرنے ہے جس کے تحت بیمه کنندہ بیمه شدہ کے مطالبات کو کم کرنے کے بعد اس کی جگہ لے لیتا ہے یعنی اگر کسی متبادل ذریعہ سے بیمه شدہ کو کچھ وصول ہونا ہو تو اس کو وصول کرنے کا حق بیمه کنندہ کو ہوتا ہے۔ جب بیمه شدہ کے نقصان کا معاوضہ دے دیا جاتا ہے تو بیمه شدہ جائیداد کا حق ملکیت بیمه کنندہ کو منتقل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر بیمه شدہ جائیداد کو نقصان چیخنے کے بعد بھی اس کی کوئی قیمت ہے تو اس کو فروخت کر کے منافع کمانے کی اجازت بیمه شدہ کو نہیں ہونی چاہیے۔

(vi) حصہ دہی یا حصہ دینا: اس اصول کے تحت بیمه کنندہ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مطالبہ کی ادائیگی کے بعد دوسرے ذمہ دار

کہ جس چیز کا بیمه کرایا جا رہا ہے کہ اس کے متعلق اسے وہ تمام مادی حقوق جنہیں وہ جانتا ہے یا جنہیں اسے جاننا چاہیے بیمه کنندہ کو صاف صاف بتا دے۔ مادی حقوق میں ایسی کوئی بھی حقیقت جو ہوشیار بیمه کنندہ کو بیمه کی تجویز منظور کرنے یا بیمه کی پریمیم مقرر کرنے پر اثر انداز ہو مادی حقیقت کہلاتی ہے۔ اگر بیمه شدہ مادی حقوق کے اظہار میں ناکام رہتا ہے تو بیمه کنندہ اگر چاہے تو اس معاملے کو منسوخ کر سکتا ہے۔

(ii) قابل بیمه مفاد: بیمه شدہ کا بیمه شدہ چیز میں قابل بیمه مفاد ہونا چاہیے اس اصول کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ”مکان، جہاز، مشینری، زندگی بیمه شدہ نہیں ہوتے بلکہ ان میں موجود مالی مفاد بیمه شدہ ہوتا ہے۔“ قابل بیمه مفاد کا مطلب ہے کہ بیمه شدہ چیز میں مالی مفاد حاصل ہو۔ یہ واضح اور قانونی ہونا چاہیے کہ بیمه شدہ کو زندگی یا چیز کی حفاظت میں قابل بیمه مفاد حاصل ہے تا کہ کسی واقعہ کے درپیش ہونے پر جس کے لیے بیمه کرایا گیا ہے بیمه شدہ کو مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جائیداد کے بیمه کی صورت میں واقعہ کے ہونے کے وقت بیمه شدہ کا قابل بیمه مفاد اس میں موجود ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ضروری نہیں کہ بیمه شدہ اس جائیداد کا مالک بھی ہو۔ مثلاً کسی جائیداد کے متولی کا جائیداد میں قابل بیمه مفاد ہوتا ہے۔

(iii) نقصان کی تلافی: دوسری اہم اصول نقصان کی تلافی ہے جس کا تعلق جائیداد جیسے بیمه آگ اور سمندری بیمه سے ہے۔ آگ اور سمندری بیمه نقصان کی تلافی کا معاملہ ہے جس کے تحت کسی واقعے کے ہونے کے نتیجے میں بیمه شدہ کو ہونے والے مالی نقصان کی تلافی کا بیمه کنندہ وعدہ کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں بیمه کنندہ



بیمہ کنندگان کو اس نقصان کی ادائیگی میں حصہ لینے کے لیے کہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دوسرے بیمہ کی صورت میں بیمہ کنندگان کو کری جائے تو دوسرے بیمہ کنندہ سے مزید رقم وصول کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔

(vii) نقصان میں کمی کرنا: نقصان میں کمی کا اصول بیمہ شدہ کی ذمہ داری کی اہمیت پر زور دیتا ہے جس جائزیاد کی بیمہ پالیسی صورت میں بیمہ شدہ کو اصل نقصان سے زائد رقم وصول کرنے کا کرائی گئی ہے اس کو حادثے کی صورت میں نقصان کو کم سے کم

سے تحفظ کے لیے بیمه کمپنیوں کا رخ کرتے ہیں۔ اور زندگی کی بیمه کمپنیاں انہیں ایسے خطرات سے تحفظ فراہم کرتی ہیں۔

زندگی کی بیمه پالیسی زندگی کی غیر یقینی صورت سے تحفظ فراہم کرتی ہے لیکن رفتہ اس کا دائرہ کار و سع ہوتا گیا ہے اور اب مختلف لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق مختلف قسم کی پالیسیاں دستیاب ہیں مثلاً معزودری بیمه، صحت یا طبی بیمه، سالانہ معاوضہ بیمه اور سادہ زندگی بیمه۔

زندگی بیمه کی تعریف میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں بیمه کنندہ مدتی یا پوری پوری پریکیم وصول کرنے کے بدلے میں بیمه شدہ شخص یا جس کے نام سے پالیسی لی گئی ہے بیمه شدہ رقم کی ادائیگی کرنے پر رضا مند ہوتا ہے یہ ادائیگی انسانی زندگی کو متاثر کرنے والے کسی مخصوص واقع یا ایک مخصوص مدت کے خاتمہ پر کی جاتی ہے۔ اس طرح بیمه کمپنی ایک مخصوص رقم جسے پریکیم کہا جاتا ہے کے بدلے ایک شخص کا بیمه کرنے پر رضا مند ہوتی ہے۔ پریکیم کی ادائیگی پوری کی پوری بھی کی جاسکتی ہے اور قسطوں میں بھی جیسے ماہنہ، سہ ماہی، شش ماہی اور سالانہ بیمه کمپنی ایسی صورت میں شخص کی وفات ہونے پر یا اس کے ایک خاص عمر کو پہنچنے پر (یعنی ایک مخصوص مدت کے خاتمہ پر) ایک معین رقم کی ادائیگی کرنے کا وعدہ کرتی ہے اس طرح اس شخص کو یقین ہوتا ہے کہ جب وہ ایک خاص عمر کو پہنچ گا تب اسے ایک مخصوص رقم مل جائے گی یا اس کے وفات کی صورت میں اس پر مخصوص لوگوں کو یہ رقم مل جائے گی۔

یہ معاہدہ جس میں تمام شرائط ہوتی ہیں تحریری ہوتا ہے اور

کرنے کے تمام اقدامات کیے جانے چاہیں۔ مثال کے طور پر مال گودام میں رکھے مال کا آگ کا بیمه ہے۔ حامل پالیسی یعنی بیمه شدہ کی ذمہ داری ہے کہ آگ لگنے کی صورت میں وہ تمام کوشش کرے کہ مال کو مم سے کم نقصان ہو، جیسا کہ وہ بیمه نہ ہونے کی صورت میں کرتا۔ اگر ایک ہوشمند شخص کی طرح واجب دیکھ بھال نہ کر سکی جائے تو ایسی صورت میں بیمه کمپنی سے مطالبه حاصل کرنے کا حق ضائع ہو جاتا ہے۔

#### 4.5.4 بیمه کی اقسام

بیمه کمپنیوں کے کاموں اور بیمه کاروبار کو کمزور کرنے والے قانون کے مدنظر بیمه کی مختلف اقسام موجود ہیں مولٹے طور پر بیمه کی زمرة بندی مندرجہ ذیل ہے:-

#### زندگی بیمه

زندگی غیر یقینی ہوتی ہے اس لیے ہر ایک شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مستقبل کے ناگہانی واقعات کے لیے کچھ رقم کو اپنے لیے یقینی بنائے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ہی کچھ طرح کے خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔

یہ خطرہ اس یقینی واقع کا بھی ہو سکتا ہے جسے موت کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں خاندان کے دوسرا ممبر ان کا کیا ہو گا جو کہ اس شخص آمدی پر محصر ہیں دوسرا خطرہ لمبے عرصہ تک زندہ رہنے کا ہے جب کہ انسان اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے کہ کمانے کے قابل نہیں رہتا یعنی ریٹائرمنٹ۔ ایسی صورت میں بھی آمدی یا تو ختم ہو جائے گی یا کم ہونے لگے۔ ایسے حالات میں لوگ ان خطرات

- حقائق بیمہ کنندہ کو بتانے چاہیے اس کا فرض ہے کہ وہ بیمہ کنندہ کو اپنے بارے میں معلوم تمام مادی حقائق بتائے وہ بھی جو کہ بیمہ کنندہ نے اس سے دریافت نہ کئے ہوں۔
- (iii) زندگی بیمہ میں بیمہ شدہ کا بیمہ کرائے گئے شخص میں قبل بیمہ مفاد ہونا چاہیے۔ قبل بیمہ مفاد کی غیر موجودگی میں بیمہ کا معاهدہ اصل معاهدہ نہ مانا جائے گا۔ زندگی بیمہ کی صورت میں قبل بیمہ مفاد کا ہونا اس وقت ضروری ہے جب بیمہ کرایا گیا ہے یہ ضروری نہیں کہ بیمہ شدہ کا قبل بیمہ مفاد متعین وقت پر بھی ہو۔ مثلاً کسی شخص سے امید کی جاتی ہے کہ اس کا اپنی زندگی اور اس کے ہر حصہ سے مفاد وابستہ ہے، ایک قرض خواہ کا اپنے قرض دار کی زندگی میں قبل بیمہ مفاد ہے، ایک ڈرامہ کمپنی کے مالک اپنے ادا کاروں کی زندگی میں قبل بیمہ مفاد ہے۔
- (iv) زندگی بیمہ نقصان کی تلافی کا بیمہ نہیں ہے انسانی زندگی کی تلافی نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی ایک مخصوص رقم میں اسے ناپا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی بیمہ میں واقع کے وہ نما ہونے پر قبل ادارم کو پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے۔ اس لئے زندگی کا بیمہ ایک نقصان کی تلافی کا بیمہ نہیں ہے۔

### زندگی بیمہ پالیسیوں کی اقسام

پالیسی ایک دستاویز ہے یہ بیمہ کنندہ اور بیمہ شدہ کے درمیان تحریری معاهدہ ہے جس میں وہ شرائط درج ہوتی ہیں جن کے تحت پالیسی جاری کی جاتی ہے تجویز کنندہ سے تجویز کا فارم تمام خانہ پری اور مستحکموں کے ساتھ وصول ہونے اور پہلی پریمیم جمع ہونے

ایسی دستاویز کو پالیسی کہتے ہیں۔ جس شخص کی زندگی کا بیمہ کیا گیا ہے اسے بیمہ شدہ کہتے ہیں بیمہ کمپنی بیمہ کنندہ ہوتی ہے بیمہ شدہ کے ذریعہ ادا کی گئی رقم پریمیم ہے۔ پریمیم کو وقت وقت پر مستحکموں میں ادا کیا جا سکتا ہے۔

یہ بیمہ اچانک موت کی صورت میں خاندان کو تحفظ فراہم کرتا ہے یا بڑھاپے میں جب کمانے کی صلاحیت میں کمی آجائی ہے معقول رقم فراہم کرتا ہے بیمہ محض ایک حفاظت ہی نہیں ہے بلکہ یہ سرمایہ کاری کی بھی ایک قسم ہے کیونکہ موت کے وقت یا ایک خاص مدت کے خاتمہ پر بیمہ شدہ کو ایک مخصوص رقم والپس ادا کی جانی ہوتی ہے۔

زندگی بیمہ بچت کرنے کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے کیونکہ پریمیم کی رقم مسلسل ادا کرنی ہوتی ہے یہ اس طرح بیمہ شدہ اور اس پر منحصر لوگوں کو تحفظ کا احساس دیتا ہے۔

گذشتہ حصہ میں بیان کیے گئے کے عام اصولوں کا زندگی بیمہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ کچھ باتوں کو چھوڑ کر بیمہ معاهدے کے اہم اجزاء درج ذیل ہیں:

(i) بیمہ معاهدے میں ایک کارآمد اور زندہ معاهدے کی تمام ضروری باتیں ہوئی چاہیں۔ ایک معاهدے کے کارآمد ہونے کے لیے جن عناصر کا ہونا ضروری ہے وہ ہیں پیش کش اور منظوری، بغیر دباؤ کی رضا مندی، معاهدے کی صلاحیت، قانونی معاوضہ، اور قانونی شے۔

(ii) زندگی کے بیمہ کا معاهدہ نہایت نیک نیتی کا معاهدہ ہے بیمہ شدہ بیمہ کو کمپنی کو معلومات فراہم کرنے میں دیانت دار ہونا چاہئے۔ اسے اپنی صحت کے بارے میں تمام مادی

سالوں کے بعد مکمل ہو جاتی ہے۔

(iii) مشترکہ زندگی پالیسی: یہ پالیسی دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے ذریعہ لی جاتی ہے۔ پریکیم کی ادائیگی یا تو مشترکہ طور پر کی جاتی ہے یا پھر دونوں لوگ کرتے ہیں۔ یہ ادائیگی پوری کی پوری بھی ہو سکتی ہے یا قسطوں میں بھی۔ کسی ایک شخص کے انتقال کی صورت میں بیمه شدہ رقم کی ادائیگی دوسرے زندہ بچے شخص کو کردار جاتی ہے عموماً یہ پالیسی یا تو شہر اور بیوی کے ذریعہ مشترکہ طور پر لی جاتی ہے یا پھر شراکت داری کے شرکاء کے ذریعہ لی جاتی ہے۔ جس میں رقم پر دو اشخاص میں سے زندہ بچے شخص کو قابل ادا ہوتی ہے۔

(iv) اینیوٹی پالیسی: اس پالیسی کے تحت بیمه شدہ کے ایک خاص عمر کو پہنچنے پر بیمه شدہ رقم کی ادائیگی مابانہ، سہ ماہی، شش ماہی یا سالانہ قسطوں میں کردار جاتی ہے۔ بیمه شدہ کے ذریعہ پریکیم کی ادائیگی ایک مخصوص مدت تک قسطوں میں بھی کی جاسکتی ہے یا ایک مشت بھی کی جاسکتی ہے۔ یا ان لوگوں کے لئے مفید ہے جو ایک خاص عمر کے بعد مستقل آمنی حاصل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

(v) بچوں کی بندوبستی پالیسی: اس طرح کی پالیسی کوئی شخص اپنے بچوں کی تعلیم یا شادی کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے لیتا ہے اس پالیسی کے تحت بچوں کے ایک خاص عمر کو پہنچنے پر بیمه کرانے والے کو بیمه کنندہ کو ایک خاص رقم ادا کرنی ہوتی ہے۔ جو شخص یہ معاملہ کرتا ہے اس کو پریکیم ادا کرنی پڑتی ہے لیکن اگر پالیسی کے معین وقت سے پہلے ہی اس شخص کی مو واقع ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں پریکیم کی ادائیگی نہیں کرنی پڑتی۔

کے بعد بیمه کنندہ تجویز کو منظور کرتا ہے اور پالیسی جاری کرتا ہے۔ لوگوں کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں اس لیے وہ ایک ایسی پالیسی لینا پسند کرتے ہیں جو کہ ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے۔ زندگی بیمه کے لیے لوگوں کی ضرورتیات، خاندانی ضرورتیں، بچوں کی ضرورتیں، بڑھاپے اور مخصوص ضرورتوں کی شکل میں ہو سکتی ہیں۔ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بیمه کنندگان نے مختلف اقسام کی پالیسیاں وضع کی ہیں جیسے پوری زندگی کا بیمه، بندوبستی بیمه، کل زندگی اور بندوبستی دونوں بیمه پلانوں کا مرکب، بچوں کا بیمه اور سالانہ بیمه پلان، ان میں سے چند کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

(i) پوری زندگی بیمه کی پالیسی: اس قسم کی پالیسی میں بیمه شدہ کے انتقال پر ہی نفع کے حقدار کو بیمه شدہ رقم قابل ادا ہوتی ہے اس طرح قبل ادار رقم صرف مرنے والے کے وارث یا نفع کے حقدار کو ہی ملتی ہے۔

پریکیم یا تو (20 سے 30 سال تک) معین مدت تک قابل ادا ہوتی ہے یا بیمه شدہ کی کل زندگی تک۔ اگر پریکیم ایک معین مدت کے لیے قابل ادا ہے تو بھی پالیسی بیمه شدہ کی موت تک جاری رہے گی۔

(ii) بندوبستی زندگی بیمه پالیسی: اس قسم کی پالیسی کے تحت بیمه کنندہ یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ بیمه شدہ کو اس کی مخصوص عمر تک پہنچ پر یا اس کی موت پر ان دونوں میں سے جو بھی پہلے واقع ہو ایک مخصوص رقم ادا کریگا۔ اگر بیمه شدہ مخصوص عمر تک پہنچنے سے پہلے انتقال کر جاتا ہے تو یہ رقم اس کے قانونی وارث یا اس کے نامزد شخص کو قابل ادا ہوگی۔ اس طرح بندوبستی پالیسی محدود

معاہدے کو معاہدہ نہیں مانا جائے گا۔ آگ بیمہ میں زندگی بیمہ کے بر عکس قابل بیمہ مفاد بیمہ کرنے کے وقت موجود ہونا چاہیے اور نقصان کے وقت بھی۔ مثلاً ایک کا قابل بیمہ مفاد اپنی جائیداد میں ہوتا ہے۔ ایک تاجر کا اپنے مال میں قابل بیمہ مفاد ہوتا ہے، ایک ایجنت کا اپنے مال کی جائیداد میں قابل بیمہ مفاد ہوتا ہے، شرکت داری فرم کے شریک کا اپنی فرم کی جائیداد میں قابل بیمہ مفاد ہوتا ہے ایک سا ہو کار کا گروہ رکھی گئی جائیداد میں قابل بیمہ مفاد ہوتا ہے۔

(ii) زندگی بیمہ معاہدے کی طرح آگ بیمہ معاہدہ کا نہایت نیک نتیجہ کا معاہدہ ہے بیمہ شدہ کو بیمہ کرانی گئی شدہ سے متعلق تمام معلومات سچائی اور دیانت داری سے بیمہ کمپنی کو بتانی چاہیے۔ اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ جائیداد کی نوعیت اور اس سے جڑے خطرات سے متعلق تمام حقائق کاٹھیکٹھیک اظہار کرے بیمہ کمپنی کو بھی چاہیے کہ وہ بیمہ شدہ کو پالیسی کے حقائق سے آگاہ کرے۔

(iii) آگ بیمہ کامعاہدہ نقصان کی تلافی کا معاہدہ بھی ہے بیمہ شدہ نقصان کی صورت میں نقصان کی اصل رقم بیمہ کرنندہ سے وصول کر سکتا ہے۔ بیمہ شدہ زیادہ سے زیادہ اتنی ہی رقم حاصل کر سکتا ہے جتنی رقم سے شہ کا بیمہ کرایا گیا ہے مثلاً اگر ایک شخص کے اپنے مکان کا بیمہ 400000 روپے کا کرایا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بیمہ کرنندہ پوری ہی رقم ادا کرے خواہ مکان پوری طرح سے آگ کے باعث تباہ

## آگ بیمہ

آگ بیمہ معاہدے کے تحت بیمہ کرنندہ، بیمہ شدہ کے ذریعہ ادا کی گئی پریمیم کے بد لے میں بیمہ شدہ جائیداد کو آگ سے ہونے والے نقصان کی تلافی کی ذمہ داری لیتا ہے۔ یہ ذمہ داری ایک خاص مدت تک پالیسی میں بیان کی گئی مخصوص رقم تک ہوتی ہے۔ عموماً آگ بیمہ ایک سال تک کی مدت کے لیے ہوتا ہے جس کے بعد وقائع نو قیاس کی تجدید کرانی ہوتی ہے۔ پریمیم کی ادائیگی پوری کی پوری بھی کی جاسکتی ہے اور قسطوں میں بھی۔ آگ سے ہوئے نقصان کے مطالبہ کو درج ذیل حالات پر پورا تناظروری ہے۔

(i) نقصان کو حقیقی ہونا چاہیے۔

(ii) آگ حداثتی اور غیر ارادی ہونی چاہیے۔

آگ بیمہ میں جس خطرہ کی تلافی کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں نقصان آگ یا دوسرا قریب ترین سبب کے باعث ہونا چاہیے۔ اگر نقصان حد سے زیادہ حدت کے باعث واقع ہوانہ کہ آگ لگنے سے تو پھر اسے آگ کا نقصان نہیں مانا جائے گا۔ اور پھر یہ آگ بیمہ کے مفہوم میں نہیں آئے گی اور اس طرح کے نقصان کا معاوضہ بیمہ کرنندہ سے وصول نہیں کیا جاسکتا۔

آگ بیمہ معاہدہ چند بنیادی اصولوں پر مبنی ہوتا ہے جس کا ذکر عام اصولوں کے تحت کیا جا چکا ہے۔ آگ بیمہ معاہدے کے اہم عناصر مندرجہ ذیل ہیں:-

(i) آگ بیمہ میں بیمہ شدہ کا بیمہ کرانی گئی شے میں قابل بیمہ مفاد ہونا چاہیے۔ قابل بیمہ مفاد کی غیر موجودگی میں بیمہ

## زندگی بیمه، آگ بیمه اور بحری بیمه کے درمیان فرق

| فرق کی نیاد          | زندگی بیمه   | آگ بیمه   | سمندری بیمه  |
|----------------------|--|---|--|
| 1<br>والی شہ         | انسانی زندگی کا بیمه کرایا جاتا ہے<br>بیمه کرائی جانے والی شہ طبقی جائزیاد<br>یا اثاثہ جات ہوتی ہے   | آگ بیمه میں تحفظ اور سرمایہ کاری<br>آگ بیمه صرف تحفظ کا عنصر ہوتا<br>ہے نہ کہ سرمایہ کاری   | جہاز یا جہازی مال کا بیمه کرایا<br>جاتا ہے۔  |
| 2<br>عصر             | زندگی بیمه میں تحفظ اور سرمایہ کاری<br>دونوں کے عناصر ہوتے ہیں   | زندگی بیمه میں تحفظ اور سرمایہ کاری<br>ہے نہ کہ سرمایہ کاری   | سمندری بیمه میں صرف تحفظ<br>کا عنصر ہوتا ہے  |
| 3<br>قابل بیمه مفاد  | قبل بیمه مفاد کا پالیسی کرانے کے<br>وقت موجود ہونا ضروری ہے مطالبہ<br>کے واجب الادا ہونے کے وقت اس<br>کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے                                | قبل بیمه مفاد کا پالیسی کرانے کے<br>وقت موجود ہونا ضروری ہے مطالبہ<br>کے واجب الادا ہونے کے وقت اس<br>کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے   | قابل بیمه مفاد کی موجودگی<br>مطلوبہ کے واجب الادا<br>ہونے کے وقت ضروری<br>ہے۔  |
| 4<br>مدت             | زندگی بیمه پالیسی عموماً ایک سال<br>سے زیادہ مدت کی ہوتی ہے داریہ<br>یا تو 5 سے 30 سال کی مدت کے<br>لیے یا پھر زندگی کے لیے جاتی ہے                              | آگ بیمه پالیسی عموماً ایک سال<br>کے عرصہ سے زیادہ کی نہیں ہوتی  | سمندر بیمه پالیسی یا تو ایک<br>سال یا پھر سمندری ہے یا ان<br>دونوں کا مرکب بھی ہو سکتی ہے  |
| 5<br>نقصان کی تلاش   | زندگی بیمه نقصان کی تلاش کے اصول<br>پر بنی نہیں ہوتا۔ بیمه شدہ رقم کی<br>ادائیگی یا تو ایک خاص واقع کے رونما<br>ہونے پر یا پھر پالیسی کی متعین مدت<br>پر ہوتی ہے | آگ بیمه نقصان کی تلاش کا معاملہ<br>تلاش کا معاملہ ہے بیمه شدہ<br>جہاز کی بازاری مالیت اور<br>سمندر میں تباہ ہوئی اشیاء کی<br>لاغت کا مطالبہ کر سکتا ہے<br>اور اس نقصان کی تلاش کی<br>جاتی ہے۔ | سمندری بیمه نقصان کی تلاش کی<br>تلاش کا معاملہ ہے بیمه شدہ<br>جہاز کی بازاری مالیت اور<br>سمندر میں تباہ ہوئی اشیاء کی<br>لاغت کا مطالبہ کر سکتا ہے<br>اور اس نقصان کی تلاش کی<br>جاتی ہے۔ |
| 6<br>نقصان کی پیمائش | نقصان قابل پیمائش نہیں ہوتا  | نقصان قابل پیمائش ہوتا ہے   | نقصان قابل پیمائش ہوتا ہے  |

|   |               |   |   |   |  |
|---|---------------|---|---|---|--|
| 7 | مالیت         | دستبرداری   | زندگی بیمه کی دستبرداری مالیت ہوتی ہے   | آگ بیمه کی کوئی دستبرداری مالیت نہیں ہوتی   | سمندری بیمه کوئی دستبرداری مالیت نہیں ہوتی   |
| 8 | پالیسی کی رقم | بیمه کر اسکلتا ہے   | زندگی بیمه کوئی کسی بھی رقم کی حد تک  | آگ بیمه میں پالیسی کی رقم بیمه کر اسکلتا ہے کی شہ کی مالیت سے زیادہ نہیں ہوتی   | سمندری بیمه میں پالیسی کی رقم جہاز یا جہازی مال کی بازاری مالیت سے زیادہ نہیں ہوتی |
| 9 | خطروہ کامکان  | اس میں یقینی طور پر واقع ہونے کا عنصر پایا جاتا ہے یعنی موت یا پالیسی کی معین تاریخ یقینی طور پر واقع ہوتی۔ اس لیے مطالبہ بھی کیا جائے گا | اس میں یقینی طور پر واقع رونما نہیں بھی ہو سکتا۔ یہاں غیر یقینی کا عنصر پایا جاتا ہے اور مطالبہ نہیں بھی کیا جاسکتا | آگ کی تباہی کا واقع رونما نہیں بھی ہو سکتا۔ یہاں غیر یقینی کا عنصر پایا جاتا ہے اور مطالبہ نہیں بھی کیا جاسکتا۔ یہاں غیر یقینی کا عضر ہے۔ | سمندر میں نقصان کا واقع  |

ہو چکا ہو۔ لیکن بیمه کنندہ 400,000 کی زیادہ سے یادشمنوں کا جہاز پر حملہ، آگ لگنا، سمندری ڈاکوؤں کا جہاز پر قبضہ، زیادہ رقم میں سے فرسودگی کی رقم گھٹا کر اصل نقصان کی جہاز کے کپتان اور عملہ کی حرکتیں وغیرہ شامل ہیں۔ ان خطرات کے سبب جہاز اور اس پر لدا مال یا تو تباہ ہو جاتا ہے یا پھر غائب ہو جاتا ہے اور جہازی مال کرائے کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اس لیے سمندری بیمه جہاز، اس پر لدے مال اور جہازی مال کرائے کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس طرح بیمه کی وہ شکل ہے جس میں بیمه کنندہ سمندر میں جہاز یا لدے مال کے مکمل یا جزوی نقصان کی صورت میں اس کے مالک کو معاوضہ دینے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ بیمه کنندہ سمندری مہم جوئی میں رونما ہونے والے خطرات کی وجہ سے جہاز یا اس پر لدے مال کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ ایسی صورت میں بیمه کنندہ ضمانت دینے والا کہلاتا ہے۔ اور بیمه شدہ اس وصول شدہ ضمانت یا تحفظ فراہم کرتا ہے سمندری خطرات میں ایک جہاز کا چٹان سے ٹکرانا،

### سمندری بیمه

یہ ایسا معاہدہ ہے جس کے تحت بیمه کنندہ سمندری مہم جوئی سے متعلق نقصانات کی تلافی کی ذمہ داری لیتا ہے۔ سمندری بیمه سمندری نقل و حمل کے دوران مال کو یا جہاز کو نقصان سے تحفظ کے بد لے میں اسے پریکیم کی ادائیگی کرتا ہے۔ سمندری بیمه

- نقسان کی تلافی سے زیادہ کمرشل تلافی فراہم کرتی ہے۔  
بیمه کنندہ بیمه شدہ کورضا مندی کے طریقہ اور حد تک تلافی کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ جہازی پالیسی میں رواں بازاری مالیت سے زیادہ بیمه شدہ قم ایک سطح پر متین کر لی جاتی ہے۔  
(ii) زندگی بیمه اور آگ بیمه کی طرح ہی سمندری بیمه ایک نہایت نیک نیتی کا معابدہ ہے جس کے نتائج میں بیمه شدہ دونوں کو ہی ان تمام معلوم چیزوں کا ایک دوسرا سے اظہار کرنا چاہئے جن سے بیمه معابدہ متاثر ہو سکتا ہے۔  
بیمه شدہ کا فرض ہوتا ہے کہ مال کی نویعت اور اس کی تباہی سے متعلق خطرات کا ٹھیک ٹھیک اظہار کرے۔  
(iii) قبل بیمه مفاد کا نقسان کے وقت موجود ہونا لازمی ہے لیکن پالیسی لیتے وقت اس کی موجودگی ضروری نہیں۔  
(iv) قریب ترین سبب کا اصول بھی اس پر لاگو ہوتا ہے۔ بیمه کمپنی اسی صورت میں ادا نیگی کی ذمہ دار ہو گی اگر نقسان پالیسی میں بیان کردہ مخصوص یا قریب ترین سبب کی وجہ سے ہوا ہے۔ مثلاً اگر نقسان کئی اسباب ہیں تو ایسی صورت میں قریب ترین سبب کو مدد نظر کھاجائے گا۔

#### 4.6 موacialati خدمات

موacialati خدمات یورپی دنیا سے رابطہ قائم کرنے میں کاروبار کی مدد کرتی ہیں جیسے سپلائر، گاہک اور حریف وغیرہ سے کاروبار کا وجود تھا یا خالی میں نہیں ہوتا اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ خیالات اور اطلاعات کے تبادلہ کے لئے پیغام رسانی کرنی پڑتی ہے۔  
موacialati خدمات کو نہایت کار آمد، درست اور موثر ہونے کے

دوسری قسم کے بیوں سے ذرا مختلف ہے اس میں تین چیزیں شامل ہیں یعنی جہاز، جہاز پر لدار مال یا اشیاء اور جہازی مال کرایہ۔

(a) جہاز کا بیمه: کیونکہ جہاز کو سمندر میں کئی طرح کے خطرات لاحق ہوتے ہیں اس لیے بیمه پالیسی جہاز کی تباہی کی وجہ سے ہوئے نقسان کی تلافی بیمه شدہ کو کرتی ہے۔

(b) جہاز پر لدار مال کا بیمه: جب مال کو جہاز کے ذریعہ روانہ کیا جاتا ہے تب اسے کئی طرح کے خطرات لاحق ہوتے ہیں یہ بندرگاہ پر بھی ہو سکتے ہیں جیسے چوری اور اشیاء کی گم شدگی کا خطرہ اور سفر کے دوران کوئی خطرہ۔ اس طرح مال کو لاحق ایسے خطرات سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے بیمه پالیسی جاری کی جاتی ہے۔

(c) جہازی مال کے کرایہ کا بیمه: اگر جہاز پر لدار مال نقل و حمل ہونے والے نقسان یا تباہی کی وجہ سے اپنی منزل پر نہ پہنچ پایا تو ایسی صورت میں جہاز رال کمپنی کو جہازی مال کرائے کی ادائیگی نہیں کی جاتی۔ جہازی مال کرایہ بیمه کا مطلب جہاز رال کمپنی کو جہازی مال کرائے کے نقسان کی تلافی کرتا ہے۔

سمندری بیمه کے اصول عام بیمه کے اصول کی طرح ہی ہیں سمندری بیمه معابدے کے اہم عنصر مدرج ذیل ہیں:

(i) زندگی بیمه کے عکس، سمندری بیمه مفاد نقسان کی تلافی کا معابدہ ہے۔ بیمه شدہ نقسان کی صورت میں بیمه کنندہ سے نقسان کی اصل رقم وصول کر سکتا ہے بیمه شدہ کو کسی حالت میں سمندری بیمه معابدے سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن جہازی مال کی پالیسی شدید

### ہندوستان میں ڈاک نیٹ ورک کی حقیقتیں

- ڈاک گھر 1,54149
- لیٹر بکس 5,64,701
- کروڑ ڈاک ہرسال 1,575
- دیہات اور عوام۔ ٹلی فون (کل دیہاتوں کے 84%) 5,01,716
- ڈاک دفتر نیٹ ورک سے جڑھے ہیں۔ 26,000
- ڈاک گھر بچت بینک اپنی 1,50,000 شاخوں سمیت سے بڑا ہے۔
- کروڑ روپے کی کل وصولیاں 2,00,000
- وی ایس اے ٹی نیٹ ورک سیٹ لائیٹ کے ذریعہ 1200 ڈاک گھروں سے جڑا ہوا ہے۔
- ہندوستان میں 1000 سے زائد مقام کے لیے اسپیڈ پوسٹ کی سہولت۔
- پوری دنیا کے 97 اہم ممالک سے رابطہ
- مأخذ: [www.indiapost.gov.in](http://www.indiapost.gov.in)

اپنے علاقائی اور ڈویزنل سطحوں پر کرتے ہیں ڈاک کے شعبہ کے ذریعہ فراہم کی جانے والی خدمات کو موٹے طور پر مندرجہ ذیل درجوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(i) مالی سہولیات: یہ سہولیات ڈاک دفتر کی بچتوں سے متعلق ایکیموں کے ذریعہ فراہم کی جاتی ہیں ان میں شامل ہیں۔ پی پی ایف، کسان و کاس پتر اور قومی بچت سرٹیکلیٹ، عام خودہ بینک

کاری، ماہانہ آمدنی ایکیم کے کاموں کے علاوہ ریکرینگ ڈپاٹ، بچت کھاتہ، وقتی ڈپاٹ اور منی آڈر کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہیں۔

(ii) ڈاک کی سہولیات: ڈاک کی سہولیات میں پارسل کی

لیے تیز رفتار ہونا ضریب ہے۔ اس تیزی سے متاخر ک اور مقابلہ سے بھر پور دنیا میں اطلاعات کے فوری لین دین کے لیے اعلیٰ ٹکنالوجی کو اپنا نا ضروری ہے۔ الکٹرائک ذرائع اس تبدیلہ کے لیے خاص طور پر ذمہ دار ہیں۔ کاروبار کی مدد کرنے والی خاص خدمات کو ڈاک اور ٹلی کام کے زمروں میں بنا جاسکتا ہے۔

### ڈاک کی خدمات

ہندوستانی ڈاک اور تاریخ شعبہ پورے ہندوستان میں ڈاک کی خدمات فراہم کرتا ہے ان خدمات کو فراہم کرنے کی خاطر پورے ملک کو 22 ڈاک حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ حلقات مختلف ہیڈ آفسوں، ذیلی ڈاک دفتروں کے روزمرہ کے کاموں کا انتظام

- سہولیات یعنی اشیاء کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ، رجسٹریشن کرتا ہے:
1. گرینگ پوسٹ: ہر خوشی کے موقع کے لیے خوشنا سہولیات یعنی تبادلہ کی گئی اشیاء کی حفاظت، اور بیمه سہولت یعنی ڈاک کے ذریعہ بھیج جانے کے عمل میں ہونے والے تمام گرینگ کارڈ۔
  2. میڈیا پوسٹ: پوسٹ کارڈروں، لفافوں، ایریوگراموں، ڈیلی گراموں اور لیٹر بکسوں کے ذریعہ ہندوستانی کاروباری اداروں کو اپنے برائٹوں کا اشتہار دینے کی خطرات سے بیمہ کرانا، شامل ہیں۔
- ڈاک شعبہ مندرجہ ذیل اقسام کی حلیف سہولیات بھی پیش

### عام بیمه

#### 1. صحبت کا بیمه

صحبت کا بیمه بڑھتی ہوئی طبی لاغتوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ صحبت کی بیمه پالیسی بیمہ کنندہ اور کسی شخص یا گروپ کے درمیان ایک معاملہ ہوتا ہے جس میں بیمہ کنندہ ایک طے شدہ قیمت (پریمیم) کے بدالے میں مخصوص صحبت کا بیمه فراہم کرتا ہے۔ پریمیم پوری کی پوری دلی جاتی ہے یا قسطوں میں۔ اس کا انحصار بیمہ پالیسی پر ہوتا ہے۔ صحبت بیمہ بیماری یا چوت سے متعلق اخراجات یا تو براہ راست کرتا ہے یا ان کی تلافی بیمہ کنندہ کو کر دیتا ہے۔ صحبت بیمہ کے ذریعہ فراہم کیے گئے تحفظ کا دائرہ اور لگت بیمہ اور خریدی گئی پالیسی پر منحصر ہوتا ہے۔ ہندوستان میں موجودہ صحبت بیمہ کا وجود بنیادی طور پر میڈیکلیم پالیسی کی شکل میں ہے جو کہ کاروباری اداروں سے جڑے افراد کو بیمه فراہم کرتی ہے۔

#### 2. موڑگاڑی کا بیمه

موڑگاڑی بیمه عام بیمہ کے زمرے میں آتا ہے یہ بیمہ نہایت مقبول ہے اور اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ موڑ بیمہ کے تحت مالک کی ان لوگوں کو معاوضہ دینے کی ذمہ داری جو کہ گاڑی کے ڈرائیور کی غلطی کے باعث مارے یا چوت پکنچائے گئے ہیں بیمہ کمپنی پر منتقل ہو جاتی ہے۔ موڑ بیمہ کے تحت پریمیم کی شرح کا ایک قائم معیار ہوتا ہے۔

#### 3. چوری بیمه

چوری بیمہ جانیداد بیمہ کے زمرے میں آتا ہے۔ چوری بیمہ کے تحت چوری، ٹھیک، نقب زنی اور اسی نوعیت کی دوسری حرکتوں کی وجہ سے گھریلو اشیاء اور جانیداد کو پہنچ نقصان آتے ہیں۔ حقیقی نقصان کامعاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔

- (i) قابل بیمہ مفاد کا نقصان کے وقت موجود ہونا لازمی ہے لیکن ضروری نہیں کہ یہ پالیسی لیتے وقت بھی موجود ہو۔
- (ii) قریب ترین سبب کا اصول اس پر بھی لگو ہوتا ہے پالیسی میں بیان کردہ قریب ترین سبب کی صورت میں ہی بیمہ کمپنی کی ذمہ دار

ہوگی۔ مثلاً اگر نقصان کئی وجوہات کے باعث ہوا ہے تب نقصان کی قریب ترین وجہ کو دھیان میں رکھا جائے گا۔

#### 4. مولیشی بیمه

مولیشی بیمه ایسا معہدہ ہے جس کے تحت بیمہ کنندہ کو بیل، بھینس، گائے، پھٹرے جیسے جانوروں کی موت کی صورت میں ایک مخصوص رقم کی ادائیگی کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے۔ یہ معہدہ حادثہ، پیار پا حاملہ ہونے کے نتیجے میں واقع ہونے والی موت کے لئے ہوتا ہے۔ بیمہ کنندہ نقصان کی ادائیگی کرنے کی خصانت دیتا ہے۔

#### 5. فصل کا بیمه

فصل کا بیمه ایسا معہدہ ہے جو فقط یا سیالب کی وجہ سے فصل کے ناکام ہونے کی صورت میں کسانوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ یہ بیمه چاول، گیوں، دالوں اور یتلی یخوں وغیرہ کی پیداوار سے متعلق نقصانات سے بچنے کے لیے کرایا جاتا ہے۔ تمام فصلوں کا تمام طرح کے خطرات سے بیمہ اب تک ہمارے مک میں شروع نہیں ہو سکا ہے۔

#### 6. کھیل کو دیمہ

یہ پالیسی شوقیہ کھلاڑیوں کو ان کے کھیل سے متعلقہ ساز و سامان، اُتی سامان، قانونی ذمہ داری اور ذاتی حادثہ کے خطرات سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اگر کھلاڑی اس دستیاب کو تحفظ کی حد کو اپنے ساتھ رہ رہے خاندان کے نامزد ممبر ان تک بڑھانا چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تحفظ پیشہ و رکھلاڑیوں کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ یہ تحفظ درج ذیل کھیلوں میں سے کسی ایک یا اس سے زیادہ کے لیے دستیاب ہے: مچھلی کا شترکار، بیڈ مینٹن، کرکٹ، گاوف، لان ٹینس، اسکواش اور کھیل کی بندوقوں کا استعمال۔

#### 7. امرتیہ میں ہلکیشاپ و جنابیمہ

یہ پالیسی جزل انشورنس کمپنی کے ذریعہ پیش کی گئی ہے جس کا مقصد محصر بچوں کی تعلیم کو محفوظ بنانا ہے۔ اگر بیمہ شدہ والدین یا قانونی سرپرست کو ایک سال کی مدت کے دوران یہ ورنی، پُر تشدد اور مرکی یا دکھائی دیئے جانے والے ذرائع کی وجہ سے برادر است کوئی جسمانی چوت پکھتی ہے جس کی موت بارہ میں کے اندر اسی وجہ سے واقع ہو جاتی ہے یا وہ مستقل طور پر اپنی ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں حادثہ سے پالیسی کے خاتمہ تک یا تعلیمی مدت کے خاتمہ تک جو بھی پہلے واقع ہو بیمہ کنندہ بیمہ شدہ طالب علم کے تمام تعلیم اخراجات کی تلافی کرے گا۔ اور ایسی تلافی پالیسی میں بیان شدہ رقم سے زائد نہیں ہو سکتی۔

#### 8. راجیشوری مہیلا کلیان بیمه یو جنا

یہ پالیسی بیمہ شدہ عورت کے خاندان کے تمام ممبر ان کو ادا فراہم کرنے کے لیے وضع کی گئی ہے اگر عورت کسی ایسے حادثہ کے باعث اپنی ہو جاتی ہے یا وفات پا جاتی ہے جو عورتوں کے مسائل سے وابستہ ہوتے ہیں۔

صارفین الیکٹرنکس اور میڈیا کے میدان میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ معیار زندگی کو بلند کرنے میں ٹیلی کام کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اور 2005 تک ہندوستان کے آئی ٹی سیر پاور بن جانے کے خواب کو پورا کرنے کی خاطر حکومت ہندوستان نے 1999 میں نئی ٹیلی کام فریم ورک پالیسی اور 2004 میں براڈ بینڈ پالیسی تعمیل دی تھی۔ حکومت نے اس فریم ورک کے ذریعے معیشت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی خدمات فراہم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔

مختلف طرح کی ٹیلی کام خدمات مندرجہ ذیل ہیں:

(i) سیلوار موبائل خدمات: اس میں تمام طرح کی موبائل ٹیلی کام خدمات آتی ہیں۔ جن میں اپنے ہی خدماتی میدان میں کسی بھی قسم کے نیٹ ورک کا استعمال کر کے پی سی اور خدمات، صوتی اور غیر صوتی پیغامات اور ڈائٹا خدمات شامل ہیں۔ اس کے ذریعے کسی بھی دیگر قسم کے ٹیلی کام خدمت فراہم کردہ کے ساتھ باہمی رابطہ بھی قائم کیا جاسکتا ہے۔

(ii) ریڈی یو پیچنگ خدمات: ریڈی یو پیچنگ خدمت اطلاع کی پیغام رسانی کا ایک قابل استطاعت طریقہ ہے۔ اس کے ذریعہ لوگوں کو پیغام رسانی اس وقت بھی کی جاسکتی ہے جب کے وہ دوران نقل و حمل ہوں لیعنی سفر میں ہوں یا چل پھر رہے ہوں۔ یہ اطلاع کو ایک ہی جانب سے بھیجنے کا طریقہ ہے اور اس کی پہنچ نہایت وسیع علاقے تک ہوتی ہے۔ ریڈی یو پیچنگ خدمات صرف صوتی، صرف اعدادی، اور صرف ہندسی پیچنگ میں دستیاب ہوتی ہیں۔

(iii) فکسل لائئن خدمات: اس میں تمام طرح کی غیر متحرک

سہولت فراہم کرنا۔

3. براہ راست ڈاک براہ راست تیکیر کے لیے ہے اس پر پڑتے بھی لکھا جاسکتا ہے اور یہ بنا پتے بھی ہو سکتی ہے۔

4. یوالیں اے کی ولیٹرین یونیون فائیٹشل سرویسیں کے ساتھ مل کر بین الاقوامی رقم تباadol کی سہولت فراہم کرنا جو کہ ہندوستان کو 185 ممالک سے رقم بھیجنے کے قابل بنا تی ہے جتنی 185 ممالک سے ہندوستان میں پیسہ بھیجا جاسکتا ہے۔

5. پاسپورٹ کی سہولیات: پاسپورٹ کی درخواست کے لیے سہولت فراہم کرنے میں اس کی وزارت خارجہ کے ساتھ شرائکت داری ہے۔

6. اپیڈ پوسٹ: اس کا پوری دنیا کے 97 اہم ملکوں اور ہندوستان میں 1000 مقاموں سے رابطہ ہے۔

7. ای۔ بل اس شعبہ کی جدید ترین پیش کش ہے جس کے تحت یہ بی ایس این ایل اور بھاری ایئر ٹیل کے بلوں کی ادائیگی وصول کرتی ہے۔

### ٹیلی کام خدمات

عالیٰ معیار کا ٹیلی کام ڈھانچہ ملک کی تیز رفتار معاشری اور سماجی ترقی کی کنجی ہے۔ یہ درحقیقت تمام کاروباری سرگرمیوں کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج دنیا ایک عالمی گاؤں بن گئی ہے۔ اور ایسی دنیا میں ٹیلی کام کے ڈھانچے کے بنابر اعظموں کے درمیان کاروبار کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ پوری دنیا میں آئی ٹی، ٹیلی کام،

بازار اور قیمتی شرخیں، اور ٹیلی ایجوکیشن۔

- (vi) ڈی ٹی ایچ خدمات: ڈی ٹی ایچ (ڈائریکٹ ٹو ہوم) پیغام رسانی کے لیے رابطوں کو قائم کرنے کی خاطر صوتی اور غیر صوتی پیغامات اور ڈائٹا خدمات شامل ہیں۔ یہ خدمات پورے ملک کے طول و عرض میں بچھائے گئے فائی آئیکس سے وابستہ کسی نیٹ ورک کا استعمال کرتی ہیں یہ دوسری اقسام کے ٹیلی کام خدمات فراہم کردہ کے ہمراہ باہمی رابطہ بھی فراہم کرتی ہیں۔
- (iv) کیبل خدمات: یہ یک طرفہ رابطے کی خدمات ہوتی ہیں جن کے ذریعہ ایک کام کرنے کے لاسنس شدہ علاقوں میں میڈیا کی خدمات کی فراہمی کا کام کیا جاتا ہے۔ جو بنیادی طور پر یک طرفہ تفتیح اور لطف اندازی سے متعلق خدمات ہیں۔ کیبل نیٹ ورک کے ذریعہ دو طرفہ پیغام رسانی جس میں صوتی، ڈائٹا اور اطلاعاتی خدمات شامل ہوں، کا قیام مستقبل میں ہو سکتا ہے۔ کیبل نیٹ ورک کے ذریعہ ان خدمات کی فراہمی فائل یا قائم خدمات جیسی ہی ہوگی۔

#### 4.7 نقل و حمل یا ٹرانسپورٹیشن

نقل و حمل میں اس کے تمام طریقوں یعنی ریل، سڑک، ہوا اور سمندر کے ذریعے کرایہ لے کر اشیاء کو حرکت پذیر بنانے اور مسافروں کو یہن الاقوامی سطح پر ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جانے کی خدمات اپنی معاونیں خدمات کے ساتھ شامل ہیں۔ آپ گذشتہ جماعتوں میں نقل و حمل کے مختلف طریقوں کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ان خدمات کو کاروبار کے لیے نہایت اہم خیال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ رفتار کسی بھی کاروباری سودے کی روح ہے۔ نقل حمل جگہ کی روکاٹ کو بھی ختم کرتی ہے یعنی یہ اشیاء کو پیداوار کی جگہ سے صارفین کی جگہ پر دستیاب کرتی ہے۔ ہمیں اپنے نقل و حمل کے نظام کو اپنی معیشت کی ضروریات کے مطابق ترقی دینے کی ضرورت ہے ہمیں اعلیٰ معیار اور معقول چوزاتی کی بہتر سلوکوں کے ڈھانچہ کی

- اور ایک جگہ قائم یا فائل ڈخدمات آتی ہیں جس میں طویل فاصلاتی پیغام رسانی کے لیے رابطوں کو قائم کرنے کی خاطر صوتی اور غیر صوتی پیغامات اور ڈائٹا خدمات شامل ہیں۔ یہ خدمات پورے ملک کے طول و عرض میں بچھائے گئے فائی آئیکس سے وابستہ کسی نیٹ ورک کا استعمال کرتی ہیں یہ دوسری اقسام کے ٹیلی کام خدمات فراہم کردہ کے ہمراہ باہمی رابطہ بھی فراہم کرتی ہیں۔
- (v) وی ایس اے ٹی خدمات: وی ایس اے ٹی (ویری اسماں ایری چرڑی میں) ایک سیٹ لائیٹ پرمی مواصلاتی خدمت ہے۔ یہ کاروباری اور سرکاری اجنبیوں کو نہایت بہت ہی لچک دار اور قابل بھروسہ مواصلاتی خدمت فراہم کرتی ہے یہ خدمت شہری اور دیہاتی دونوں طرح کے علاقوں میں فراہم کی جاسکتی ہے۔ زمین پرمی خدمات کے مقابلے میں وی ایس اے ٹی زیادہ قابل بھروسہ اور مسلسل خدمات کی فراہمی کرتی ہے۔ اس کا استعمال ملک کے دور راز علاقوں میں نئے نئے کاموں کو انجام دینے کے لیے کیا جاسکتا ہے۔ جیسے ٹیلی میڈیا ایس، آن لائین اخبارات،

### بنیادی درآمدات

آزادی کے پہلے 50 برسوں میں ہندوستان نے 13,000 کلومیٹر کی قومی شاہراہ کی تعمیر کی۔ این اتنجے اے آئی۔ (حکومت ہندوستان) کا پروجیکٹ کے تحت ایک سمندرے چکور (گولڈن لاؤڈ بیٹھل) کے تعمیر شامل ہے جو دہلی۔ کوکاتا۔ چنی اور بمبئی کو جوڑے گا اور شمال جنوب، مشرق، مغرب کا ریڈور بنا کر سری نگر کو نیا کماری اور سیاچار کو پور بندرستے جوڑے گا۔ اس کے لیے 8 سالوں کی مدت میں 13,151 کلومیٹر کی قومی شاہراہ کی تعمیر کی جائے گی۔ یہ پروجیکٹ نہ صرف سڑک ٹرانسپورٹ کی شکل تبدیل کر لیگا بلکہ اس کے ہماری معیشت پر دور رس اثر بھی ہونگے۔ ریلوے کی وزارت نے بھی کاروباری طبقے کی ضروریات پورا کرنے کے لیے مال بردار ریلوے نقل و حمل اور دیکھ بھال میں بھاری اختیارات کی ہیں۔

حکومت ہندوستان بھی کاروباری سرگرمیوں کو جدید شکل دینے کے لیے ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر زیادہ بہتر سہولیات کو لیتی بنانے میں سنجیدہ ہے۔ حکومت کا منصوبہ نہ صرف موجودہ بندرگاہوں کی گنجائش و صلاحیت میں اضافہ کرنے کا ہے بلکہ یہ موزوں علاقوں میں اور جدید طرز پر بندرگاہیں بھی بنانا چاہتی ہے۔

میں دستی طور پر لیجایا جاتا تھا اور مرش پر ہاتھوں سے ایک انبار لگایا جاتا تھا۔ ہندوستان میں ان کا استعمال صنعت کاروں، برآمد کاروں، درآمد کاروں، تھوک فروشوں، خورده فروشوں، نقل و حمل، کاروباری گاہوں وغیرہ کے ذریعہ کیا جاتا تھا۔

موجودہ دور میں گودام مخف اسٹوریج کی خدمت فراہم نہیں کرتے بلکہ یہ نہایت واجب لائتوں پر دوسری خدمات واسد بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح گودام نہایت درست لائگت پر صحیح طبعی شکل میں، ٹھیک وقت پر، صحیح جگہ پر، درست مقدار دستیاب کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جدید گودام خود کار گودام میں ہیں۔ ان میں انتظام کے لیے خود کار سافت ویر، کمپیوٹر سے چلنے والی کرینوں اور خود کار سہولت فراہم کرنے والے اوزاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔

### گودام میں مال رکھنا

مال کو اسٹور کرنا ہمیشہ ہی معاشری ترقی کا ایک اہم پہلو رہا ہے گوداموں کو شروعاتی طور پر ایک ایسی غیر متحرک اکائی خیال کیا جاتا تھا جس کا مقصد اشیاء کے اصل معیار، مالیت اور استعمال کی خاصیت کو قائم رکھنے کے لیے سائنسی اور منظم طریقے سے اسٹور کرنا تھا۔ مثلاً گودام ریل، ٹرک یا نیل گاڑی کے ذریعہ تجارتی مال رکھنے والے گودام بن گئے۔ اشیاء کو گودام کے اندر اسٹوریج

### گوداموں کی اقسام

(i) پرائیوٹ گودام: پرائیوٹ گودام کی ملکیت اور انتظام ایک

اڈے سے مال لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔

بعض اوقات جب درآمد کا کشم ڈیوٹی کی پوری ادا یگی کرنے کی حالت میں نہیں ہوتے۔ وہ تمام مال کو فوری طور پر نہیں لے جاتے۔ کشم حکام کے ذریعے مال کو بونڈیڈ گودام میں رکھا جاتا ہے جب تک کہ کشم ڈیوٹی کی ادا یگی نہ ہو جائے۔

درآمد کاروگا ہک مال کو حسب ضرورت قہوہ آٹھوڑا کر کے نکال سکتے ہیں اور درآمد ڈیوٹی کی ادا یگی قسطوں میں کر سکتے ہیں۔

مال کی فروخت یا استعمال سے پہلے درآمد کار کو درآمد ڈیوٹی کی ادا یگی کے لیے فنڈ کرو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ اگر وہ بونڈیڈ گودام میں رکھے مال کو برآمد کرنا چاہے تو وہ بنا کشم ڈیوٹی کی ادا یگی کے ایسا کر سکتا ہے۔ اس طرح بونڈیڈ گودام انیٹرپورٹ تجارت کو فروغ دیتے ہیں۔

(iv) سرکاری گودام: ان گوداموں کی کلی ملکیت اور انتظام حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ حکومت پلک سیکٹر ہمیں کشم کا انتظام چلاتی ہے مثلاً فوڈ کار پوریشن آف انڈیا، اسٹیٹ ٹریڈنگ کار پوریشن اف انڈیا، مرکزی اور یاستی گودام کا پوریشن وغیرہ۔

(v) امداد بآہمی گودام: چند مارکٹنگ امداد بآہمی سوسائٹیاں یا زراعتی امداد بآہمی سوسائٹیاں اپنی سوسائٹیوں کے ممبران کے لیے اپنے خود کے گودام قائم کرتی ہیں۔

### گودام کاری کے کام

گودام کاری کے کام مندرجہ ذیل ہیں:

(a) **الحاق (Consolidation):** گودام مختلف پیداواری پلانٹوں سے اشیاء یا مال کو دصول اور ریکھا کرنے

ایسی کمپنی کے پاس ہوتا ہے جو کہ اپنی اشیاء کی دلیلہ بھال خود ہی کرتی ہے جیسے خودہ استھور کا سلسلہ، یا کشیر برائٹ کی کشیر اشیاء رکھنے والی کمپنیاں۔ اشیاء کی حرکت کو بہتر بنانے کے لیے گودام کو مال بنانے کے نظام کے قریب ہی قائم کیا جاتا ہے۔ پرانیوٹ گودام کئی طرح کے فوائد فراہم کرتا ہے جیسے کہ کنٹرول، چک اور متعلقہ کاروباری افراد کے ساتھ بہتر تعلقات۔

(iii) عوامی گودام: عوامی گودام کا استعمال تاجر، صنعت کاریا عوام کا کوئی بھی ممبر استھور کی فیس کے بدالے میں اپنے مال کو استھور کرنے کے لیے کرتا ہے ان گوداموں کے کاموں کو حکومت نہیں افراد کو لائسنس جاری کر کے منظم کرتی ہے۔

گودام کے مالک کی حیثیت اشیاء کے مالک کے ایجنت کی ہوتی ہے اور اس سے موقع کی جاتی ہے کہ وہ اشیاء کی مناسب دلیلہ بھال کرے گا۔

یہ گودام ریل اور سڑک کے ذریعہ نقل و حمل کی سہولیات بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ اشیاء کی مکمل حفاظت کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ چھوٹے صنعت کاروں کو ان سے کافی سہولت ملتی ہے کیونکہ وہ اپنے خود کے گودام تعیر کرنے کا بار نہیں اٹھاسکتے۔

ان سے دیگر فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں جیسے ان کی جائے وقوع کی تعداد میں چک، قائم لگت کانہ ہونا اور پنگ اور لینگ جیسی مالی خدمات کی فراہمی پیش کرنے کی استعداد۔


(iii) بونڈیڈ گودام: بونڈیڈ گودام حکومت کے ذریعہ لائسنس شدہ ہوتے۔ ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے کہ یہ درآمد اشیاء کو کشم ڈیوٹی اور ٹکس کی ادا یگی سے قبل وصول کر لیں۔ دوسرے مالک سے درآمد کی گئی اشیاء پر کشم ڈیوٹی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ درآمد کاروں کو کشم ڈیوٹی کی ادا یگی سے پہلے بندرگاہ یا ہوائی

خام مال جن کی ضرورت فروخت یا صنعت کاری کے لیے فوری طور پر نہیں ہوتی ان کو گوداموں میں رکھا جاتا ہے۔ اور گاہوں کی مانگ کے مطابق ان اشیاء کو دستیاب کرایا جاتا ہے۔ زراعتی اشیاء جن کی نسل ایک مخصوص وقت میں ہوتی ہے لیکن جن کی کھپت پورے سال رہتی ہے ان کو اسٹور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کو بڑی مقدار میں وقت فرما نکالا جاسکے۔


(d) دلیل ایڈیٹر اضافی مالیت خدمات: گودام چند اضافی مالیاتی خدمات بھی فراہم کرتے ہیں۔ جیسے دوران نقل و حمل مسکنگ، پیچنگ اور لیبلنگ۔ بعض اوقات اشیاء کو کھولنے اور دوبارہ پیک کرنے اور لیبل لگانے کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت لازماً جب کہ ان کا معافیہ ممکنہ گاہک کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ مقدار کے مطابق درجہ بندی یا گریڈنگ اور چھوٹے ڈھیروں میں مال کی تقسیم بھی گودام کے دیگر کام ہیں۔

(e) قیمت میں استحکام: اشیاء کی مانگ کے مطابق ان کی سپلائی کو بنائے رکھ کر گوادام کاری قیتوں کو مستحکم رکھنے کا کام بھی انجام دیتی ہے۔ اس طرح، جب سپلائی میں اضافہ اور

اور اس کو نقل و حمل کے ذریعہ ایک مخصوص گاہک تک بھیجنے کا کام کرتے ہیں۔



(b) ڈھیر کو توڑنا: گودام پیداواری پلانٹوں سے وصول شدہ زیادہ مقدار کو کم مقداروں میں تقسیم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ان کم مقداروں کو بعد ازاں گاہوں کی ضروریات کے مطابق ان کی کاروباری جگہوں پر باذرائے نقل و حمل سے پہنچادیا جاتا ہے۔



(c) ذخیرہ اندوزی: گودام کاری کا ایک اور کام چندہ کاروباری کی اشیاء کو موتی طور پر اسٹور کرنا ہے۔ اشیاء یا


### پرانیوٹ گوادام کاری کمپنیاں

مرکزی گوادام کاری کارپوریشن جو کہ مرکزی حکومت کا ادارہ ہے پورے ملک کے تاجر ان کو یہ خدمات فراہم کرتا ہے۔ پرانیوٹ گوادام کاری کمپنیاں جیسے ٹی سی آئی، شنکر ائرٹ نیشنل، پینالینیا، بلڈارٹ، ڈی ایچ ایل وغیرہ نقل و حمل اور گوادام کاری دونوں کے لیے کارگو (مال ڈھونے) کی خدمات فراہم کر رہی ہیں:

ماکان کو پیشگی رقم فراہم کرتے ہیں اور گاہوں کو ادھار کی شرط پر اشیاء کی سپلائی بھی کرتے ہیں۔

ماگ میں کمی ہوتی ہے یا ماگ میں اضافہ اور سپلائی میں کمی واقع ہوتی ہے، تو گودام قیمتوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔

(f) مالی مدد: گودام مالک اشیاء یا مال کی حفاظت پر اس کے



### کلیدی اصطلاحات

|               |                          |                                 |                |
|---------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|
| آگ کا بیمه    | حق نہادنگی               | بیمه                            | کاروباری خدمات |
| بحری بیمه     | قابل بیمه مفاد           | مصبیت یا آفت کو کم کرنے کی کوشش | بینک کاری      |
| دین           | ہرجانہ                   | ای-بینک کاری                    | موافقانہ خدمات |
| زندگی کا بیمه | کریشل بینک قریب ترین سبب | موافقانہ خدمات                  | شرکت           |
|               |                          |                                 | گودام کاری     |

### خلاصہ

خدمات کی نوعیت: خدمات وہ علاحدہ طور پر قابل شناخت اور مادی اور محسوس نہ کر سکنے والی سرگرمیاں ہیں جو کہ خواہشات کی تسلیم کرتی ہیں اور جن کا تعلق کسی شے یا دیگر خدمت کی فروخت سے نہیں ہوتا۔ خدمات کی پانچ بنیادی خصوصیات ہیں۔ یہ اشیاء خصوصیات سے مختلف ہیں اور ان کو خدمات کی پانچ آئی (Is) کہا جاتا ہے۔

غیر محسوس، غیر کیسانیت، ناقابل علیحدگی، ذخیرہ اندوزی رانو نیٹری، شمولیت۔

**خدمات اور اشیاء میں فرق:** اشیاء کی پیداوار کی جاتی ہے جب کہ خدمات کو ادا کیا جاتا ہے۔ خدمت ایک ایسا عمل ہے جس کو گھر نہیں لایا جاسکتا۔ ہم گھر صرف خدمت کے اثر کو لاتے ہیں اور کیونکہ خدمات کی فروخت کے مقام پر ہی کھپت ہوتی ہے اس لیے ان کو ذخیرہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔

**خدمات کی اقسام:** کاروباری خدمات، سماجی خدمات، ذاتی خدمات۔

**کاروباری خدمات:** دوسری فرموموں سے زیادہ بہتر مقابلہ کرنے کے لیے کاروباری ادارے مخصوص کاروباری خدمات پر زیادہ سے زیادہ مختص ہوتے جا رہے ہیں۔ کاروباری ادارے فنڈس کی دستیابی کے لیے بینکوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ بیسہ کمپنیوں سے رجوع کرتی ہیں، اپنی مشینری، اشیاء اور پلائٹ کا بیمه کرتی ہیں۔ اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں کا رخ خام مال اور تیار مال کی نقل و حمل، اور ٹیلی کام اور ڈاک خدمات کا رخ اپنے سپلائروں، گاہوں، فروخت کاروں سے رابطہ رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔

**بینک کاری:** ہندوستان میں ایک بینک کاری وہ کمپنی ہے جو بینک کاری کا کاروباری کرتی ہے۔ یعنی عوام سے رقم وصول کرتی ہے تاکہ اس کو ادھار دے سکے یا اس کی سرمایہ کاری کر سکے۔ یہ رقم مانگے جانے پر قابل واپسی ہوتی ہے یا اس کو چیک ڈرافٹ یا آرڈر کے ذریعہ بینک سے نکلا جاسکتا ہے۔

**بینکوں کی اقسام:** بینکوں کی زمرہ بندی مندرجہ ذیل طرح سے کی جاسکتی ہے۔ کمرشل بینک، امداد بآہمی بینک، مخصوص بینک، مرکزی بینک۔

**کمرشل بینک کے کام:** ان میں سے چند ایک بینک کے بنیادی کام ہیں جب کہ دوسرے کاموں میں ایجنٹسی کے کام ہیں جن کی نوعیت عام افادی خدمات کی ہوتی ہے۔ ڈپاٹ جمع کرنا، رقم ادھار دینا، چیک کی سہولت، رقم بھیجنے کی آسانیاں، حلیف خدمات۔

**ای بینک کاری:** انفارمیشن مکنالوگی کی جدید لہر اسٹرنیٹ بینک کاری ہے۔ یہ عملی رور چویل بینک کاری کا ایک حصہ ہے۔

ای۔ بینک کاری الیکٹر انک میڈیا کا استعمال کر کے الیکٹر انک بینک کاری کرتا ہے۔ اس طرح ای۔ بینک کاری کئی بینکوں کے ذریعہ فراہم کی جانے والی خدمت ہے۔ جس کی بدولت گاہک اپنے بھی کمپیوٹر، یا موبائل فون کا استعمال کر کے انٹرنیٹ پر بینک کاری لین دین کر سکتے ہیں۔ جیسے بچتوں کا انتظام، کھاتوں کی جانچ، قرضہ کی گزارش، یا بلوں کی ادائیگی۔

**بیمه:** بیمه ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعہ کسی غیر یقینی واقع سے ہونے والے نقصان کو ان تمام لوگوں پر پھیلا دیا جاتا ہے جن کو اس غیر یقینی واقع کا اندیشہ ہوا اور جو اس واقع سے بچنے کے لیے اپنا بیمه کرانے کے لیے تیار ہوں۔ یا ایک معاهدہ یا اقرارنامہ کی شکل ہے جس کے تحت ایک طریقہ معاوضہ میں طے شدہ رقم دوسرے فریق کو دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی چیز کو جس میں بیمه شدہ کا مالی فائدہ ہے اس کو کسی غیر یقینی واقع سے ہونے والے نقصان، ہر جانہ یا چوت کی تلافی کرے گا۔

**بیمه کے بنیادی اصول:** بیمه کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بیمه شدہ فرد یا کاروباری ادارہ مستقبل کی بڑی رقم کے خیر یقینی نقصان کے بدلتے میں ایک معلوم رقم خرچ کرنا پسند کرتا ہے۔ اس طرح بیمه جو کھم یا خطرہ کا انتظام کرنے کی ایک شکل ہے جس کا استعمال بنیادی طور پر مالی نقصان کے خطرہ سے بچاؤ کے لیے کیا جاتا ہے۔

**بیمه کے کام:** یقینی بنا، تحفظ، خطرے میں حصہ داری، سرمایہ کا تشکیل میں معاون۔

### بیمه کے اصول

**انہائی نیک نیت:** بیمه کا معاهدہ Uberrimae fidei کا معہدہ ہے اس کے معنی ہیں کہ اس معہدے کی بنیاد انہائی نیک نیت پر ہوا ہے۔ یہ ہر بیمه کے معہدے کے شرط ہے کہ بیمه کنندہ اور بیمه شدہ دونوں فریقین کو انہائی نیک نیت کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔

**قابل بیمه مفاد:** بیمه شدہ کا بیمه شدہ چیز میں قابل بیمه مفاد ہونا چاہئے۔ قابل بیمه مفاد کا مطلب ہے بیمه شدہ چیز میں مالی مناد حاصل ہو۔

**نقصان کی تلافی:** اس کے تحت کسی واقعہ کے ہونے کے نتیجہ میں بیمه شدہ کو ہونے والے مالی نقصان کی تلافی کا بیمه کنندہ وعدہ کرتا ہے۔

**قریب ترین سبب:** اگر نقصان دویادو سے زیادہ اسباب کے نتیجے میں واقع ہوا ہے تو اسی صورت میں سب سے زیادہ غالب یا موثر سبب کو نقصان کی قدرتی وجہ مانا جائے گا۔

**حق ملکیت بدلنا:** جس سے مراد یہ کہ کنندہ کے اس حق سے ہے جس کے تحت یہ کہ کنندہ یہ شدہ کے مطالبات کو پورا کرنے کے بعد اس کی جگہ لے لیتا ہے یعنی اگر کسی تبادل ذریعہ سے یہ شدہ کو کچھ وصول ہونا ہو تو اب اس کو وصول کرنے کا حق یہ کنندہ کو ہوتا ہے۔

**حصہ چندہ:** اس اصول کے تحت یہ کہ کنندہ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مطالبہ کی ادائیگی کے بعد دوسرے ذمہ دار یہ کہ کنندگان کو اس نقصان کی ادائیگی میں حصہ لینے کے لیے کہے۔

**نقصان میں کمی:** اس اصول کے مطابق یہ شدہ کا فرض ہے کہ وہ یہ شدہ املاک کے نقصان یا گشادگی کو کم سے کم کر کے دکھائے گا۔

### بیمه کی اقسام

**زندگی بیمه:** زندگی بیمه کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا معہدہ ہے جس میں یہ کہ کنندہ یا تومدتی یا پوری پریکیم وصول کرنے کے بدلتے میں یہ شدہ یا جس کے نام سے پالیسی لی گئی ہے یہ شدہ رقم کی ادائیگی کرنے پر رضامند ہوتا ہے یہ ادائیگی انسانی زندگی کو متاثر کرنے والے کسی مخصوص واقع یا ایک مخصوص مدت کے خاتمہ پر کی جاتی ہے۔

یہ یہ اچانک موت کی صورت میں خاندان کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یا بڑھاپے میں جب کمانے کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے، معقول رقم فراہم کرتا ہے یہ محض ایک حفاظت ہی نہیں ہے بلکہ یہ سرمایہ کاری کی بھی ایک قسم ہے کیونکہ موت کے وقت یا ایک خاص مدت کے خاتمہ پر یہ شدہ کو ایک مخصوص رقم مل جاتی ہے۔

**زندگی بیمه معہدے کے اہم عناصر ہیں:**

(i) بیمه معہدے میں ایک اصل اور کارآمد معہدے کی تمام ضروری باتیں ہوئی چاہئیں۔

(ii) زندگی کے بیمه کا معہدہ نہایت نیک نتیجی کا معہدہ ہے۔

(iii) زندگی بیمه میں بیمه شدہ کا بیمه کرائی گئی زندگی میں قابل بیمه مفاد ہونا چاہئے۔

(iv) زندگی بیمه نقصان کی تلافی کا بیمه نہیں ہے۔

**زندگی بیمه پالیسی کی اقسام:** لوگوں کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں اس لیے وہ ایک ایسی پالیسی لینا پسند کرتے ہیں جو کہ ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے۔ زندگی بیمه کے لیے لوگوں کی ضروریات، خاندانی ضرورتیں، بچوں کی ضرورتیں، بڑھاپے اور مخصوص ضرورتوں کی شکل میں ہو سکتی ہیں لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بیمه کنندگان نے مختلف اقسام کی پالیسیاں شروع کی ہیں جیسے کل زندگی بیمه، بند بستی بیمه، کل زندگی اور بند بستی بیمه پلانوں کا مرکب، بچوں کا بیمه اور سالانہ بیمه پلان۔

**آگ بیمه:** آگ بیمه معاہدے کے تحت بیمه کنندہ، بیمه شدہ کے ذریعے ادا کی گئی پریمیم کے بدالے میں بیمه شدہ جائیداد کو آگ سے ہونے والے نقصان کی تلافی کی ذمہ داری لیتا ہے یہ ذمہ داری ایک خاص مدت تک پالیسی میں بیان کی گئی مخصوص رقم تک ہوتی ہے۔

آگ بیمه کے اہم عناصر ہیں:

(i) آگ بیمه میں بیمه شدہ کا بیمه کرائی گئی چیز میں قابل بیمه مفاد ہونا چاہئے۔

(ii) زندگی بیمه کی طرح آگ بیمه معاہدہ نہایت نیک نیت کا معاہدہ ہے۔

(iii) آگ بیمه کا معاہدہ ایک شدید نقصان کی تلافی کا معاہدہ ہوتا ہے۔

(iv) بیمه کنندہ معاوضہ دینے یا تلافی کرنے کا ذمہ دار ایسی صورت میں ہوتا ہے جب کہ نقصان یا تباہی کا قریب ترین سبب آگ لگنا ہو۔

**سمندری بیمه:** یہ ایسا معاہدہ ہے جس کے تحت بیمه کنندہ سمندری سفر یا مال لے جانے سے متعلق نقصانات کی تلافی کی ذمہ داری لیتا ہے۔ سمندری بیمه سمندری نقل و حمل کے دوران مال کو یا جہاز و نقصان سے تحفظ فراہم کرتا ہے سمندری خطرات میں ایک جہاز کا چنان سے ٹکرانا یا شمنوں کا جہاز پر قبضہ، آگ لگنا، سمندری ڈاکوؤں کا جہاز پر قبضہ، جہاز کے کپتان اور عملکار غلط عمل وغیرہ شامل ہیں۔ سمندری بیمه دوسری قسم کے بیموں سے کچھ مختلف ہوتا ہے اس میں تین چیزیں شامل ہیں یعنی جہاز، جہاز پر لدار مال اور جہازی مال کرایہ۔

سمندری بیمه معابرے کے اہم عناصر ہیں:

- (i) زندگی بیمه کے برعکس سمندری بیمه معابرہ نقصان کی تلافی کا معابرہ ہے۔
- (ii) زندگی بیمه کی طرح سمندری بیمه ایک نہایت نیک نیتی کا بیمه ہے۔
- (iii) قابل بیمه مناد کی موجودگی نقصان کے وقت ضروری ہے۔
- (iv) قریب ترین سبب کا اصول اس پر لاگو ہوتا ہے۔

**مواصلاتی خدمات:** مواصلاتی خدمات بیرونی دنیا سے رابطہ قائم کرنے میں کاروبار کی مذکوری ہیں جیسے فراہم کاریار سد کار، گاکب اور حروف وغیرہ۔

**ڈاک خدمات:** کاروبار کی مذکورے والی خاص خدمات کو ڈاک اور ٹیلی کام کے نامروں میں بائنا جاسکتا ہے۔ ڈاک کے شعبہ کے ذریعہ فراہم کی جانے والی خدمات کو موٹے طور پر مندرجہ ذیل درجوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ مالیاتی سہولیات، ڈاک سہولیات۔

**ٹیلی کام خدمات:** مختلف اقسام کی ٹیلی کام خدمات مندرجہ ذیل طرح کی ہوتی ہیں۔ سیلوار موبائل خدمات، ریڈی یو پچینگ خدمات، فکسڈ لائیں خدمات، کیبل خدمات، وی ایس اے ٹی خدمات، ڈی ٹی ایچ خدمات۔

**نقل و حمل:** نقل و حمل میں اس کے تامن طریقوں یعنی ریل، سڑک، ہوا اور سمندرے ذریعہ اشیاء کو کرانے پرلانے لے جانے اور مسافروں کو بین الاقوامی طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی خدمات اپنی معاونیں خدمات کے ساتھ شامل ہیں۔

**گودام کاری:** گوداموں کو شروعاتی طور پر ایسی اکائی خیال کیا جاتا تھا جس کا مقصد اشیاء کے اصل معیار، مالیت اور استعمال کی خاصیت کو قائم رکھنے کے لیے سائنی اور منظم طریقے سے استور کرنا تھا۔

موجودہ دور میں گودام مخصوص اسٹور کی خدمت فراہم نہیں کرتے بلکہ یہ نہایت واجب لائقوں پر دوسری خدمات و رسید بھی فراہم کرتے ہیں۔

**گوداموں کی اقسام:** پرائیوٹ گودام، عوامی گودام، بونڈیڈ گودام، سرکاری گودام، امداد بھی گودام۔

گودام کاری کے کام: گودام کاری کے کام مندرجہ ذیل ہیں: الحاق (Consolidation) ڈھیر کو توڑنا (Break) اضافی مالیت یا ویبیو ایڈیٹ خدمات، قیمت میں استحکام، مالی مدد۔ the Bulk، خیرہ اندوزی (Stock pilign)

### مشقیں

#### کشیداً تھابی سوالات

1. ڈیٹی ایج خدمات کے ذریعہ فراہم جاتی ہیں۔۔۔

- a. ٹرانسپورٹ
- b. میکروں
- c. سیولر کمپنیوں
- d. ان میں سے کوئی نہیں

2. عمومی گوداموں کے فوائد میں شامل ہے۔۔۔

- a. کٹرول
- b. چک
- c. ڈبلر سے تعلق
- d. ان میں سے کوئی نہیں

3. ان میں سے کون سا کام بیمه کا نہیں ہے؟

- a. خطرہ میں حصہ داری
- b. سرمایہ کی تشكیل میں مدد
- c. فنڈس کوادھار دینا
- d. ان میں سے کوئی نہیں

4. مندرجہ ذیل میں سے کون سا معہدہ زندگی بیمه معہدہ پر لا گونہیں ہوتا؟

- a. مشروط معہدہ
- b. یک طرفہ معہدہ
- c. نقصان کی تلافی کا معہدہ
- d. ان میں سے کوئی نہیں

5. سی ڈبلیو سی سے مراد ہے۔۔۔

- a. سینٹرل رائے ہاؤس گمیشن
- b. سینٹرل وارکمیشن

c. سینٹرل ویرے ہاؤسنگ کارپوریشن d. سینٹرل وائر کارپوریشن

### مختصر جوابی سوالات

1. اشیاء اور خدمات کی تعریف بیان کیجیے۔
2. ای۔ بینک کاری سے کیا مراد ہے۔ ای۔ بینک کے فوائد بیان کیجیے۔
3. کاروبار کو فروغ دینے والی مختلف ٹیکنالوجی کام خدمات پر نوٹ لکھیے۔
4. یہ کے اصولوں کی مختصر وضاحت مناسب مثالوں کے ساتھ کیجیے۔
5. گودام کاری اور اس کے کاموں کی وضاحت کیجیے۔

### طویل جوابی سوالات

1. خدمات سے کیا مراد ہے؟ ان کی امتیازی خصوصیات کی وضاحت کیجیے؟
2. کمرشل بینکوں کے کاموں کی مثالوں کے ساتھ وضاحت کیجیے؟
3. ہندوستان ڈاک شعبہ کے ذریعہ فراہم کی جانے والی مختلف سہولیات پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیے۔
4. یہ کی مختلف اقسام کی تشریح کیجیے اور ان خطرات کی نوعیت کی جانچ کیجیے جن کا تحفظ ہر ایک قسم کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔
5. گودام کاری خدمات کی تفصیلی وضاحت کیجیے۔

### عملی کام / پراجیکٹ ورک

1. اپنے ذریعہ استعمال کی جانے والی مختلف خدمات کی فہرست بنائیے اور ان کی امتیازی خصوصیات کی شناخت کیجیے۔
2. بینک کاری خدمات پر ایک پراجیکٹ تیار کیجیے۔ اپنے قریبی بینک جائیے اور وہاں فراہم کی جانے والی مختلف سہولیات کے بارے میں معلوماتی کاغذ بھی حاصل کیجیے۔ بینکوں کو مزید اور کیا سہولیات فراہم کرنی چاہئیں اور ان سے متعلق اپنے مشوروں کو بھی ان سب کے ساتھ کیجا کیجیے۔